

4 S.R

نماز نفل

کتاب وسنت کی روشنی میں
مفہوم، فضائل، انواع و اقسام اور آداب

تالیف الفقیر الی اللہ تعالیٰ
و. سعید بن علی بن وہب القططانی



ترجمہ

حافظ محمد اسحاق زاہد

نظر ثانی

ڈاکٹر حافظ محمد محمود شریف

مبلغ وزارت اسلامی امور و دعوت و ارشاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

نماز نفل

کتاب وسنت کی روشنی میں
مفہوم، فضائل، انواع واقسام اور آداب

تألیف الفقیر الی اللہ تعالیٰ
و سَعِيدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ وَهْبٍ الْحَمَاطِيُّ

ترجمہ

حافظ محمد اسحاق زاہد

نظر ثانی

ڈاکٹر حافظ محمد محمود شریف

مبلغ وزارت اسلامی امور و دعوت و ارشاد

② سعيد بن علي بن وهف القحطاني، ١٤٢٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

القحطاني، سعيد بن علي بن وهف

صلاة التطوع. / سعيد بن علي بن وهف القحطاني - ط٢-

الرياض، ١٤٢٦هـ

١٨٨ ص؛ ١٧×١٢ سم

ردمك: ١ - ٢٧٦ - ٤٩ - ٩٩٦٠

(النص باللغة الأردنية)

١- صلاة التطوع ٢- النوافل أ- العنوان

١٤٢٦/٤٦٥٠

ديوي ٢٥٢.٢٩

رقم الإيداع: ١٤٢٦/٤٦٥٠

ردمك: ١ - ٢٧٦ - ٤٩ - ٩٩٦٠

الطبعة الثانية

١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد إعادة طبعه، وتوزيعه مجاناً، بدون حذف،
أو إضافة، أو تغيير، فله ذلك وجزاه الله خيراً،
بشرط أن يكتب على الغلاف الخارجي

وقف لله تعالى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مُقَدِّمَةٌ

إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَحْمَدُهُ ، وَنُسْتَعِينُهُ ، وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنْفُسَنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هُادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَا بَعْدُ :

یہ مختصر رسالہ نماز نفل کے بارے میں ہے، جس میں میں نے نماز نفل کا مفہوم، اس کی
فضیلت، انواع و اقسام اور اس کے متعلق ہر وہ مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کیا
ہے جس کی کسی بھی مسلمان کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔

اور میں نے اس میں اپنے استاذ ساحتہ الشیخ، الإمام، العلامة عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز
رحمہ اللہ کی ترجیحات سے کافی حد تک استفادہ کیا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر
کو منور فرمائے اور الفردوس الا علی میں ان کے درجات بلند فرمائے۔

اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اسے بابرکت اور اپنی
رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، اور اسے میرے لئے میری زندگی میں اور میری موت
کے بعد بھی نفع بخش بنائے، اور اسی طرح اس کے ذریعے ہر اس شخص کو نفع پہنچائے جس
کے پاس میری یہ کتاب پہنچے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی وہ سب سے بہتر ذات ہے جس سے

سوال کیا جائے، اور وہ سب سے معزز ہے جس سے امید رکھی جائے، اور وہی ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔

وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ وخیرتہ من خلقہ ، نبینا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وأصحابہ ، ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین .

مؤلف

یہ تحریر بروز ہفتہ تاریخ ۲۰/۱۱/۱۴۲۰ھ کو قبل از نماز مغرب لکھی گئی۔



نماز نفل

① نفل کا مفہوم: نفل اس کام کو کہتے ہیں جو مسلمان پر فرض نہ ہو اور وہ اسے اپنی

خوشی سے انجام دے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [البقرة: ۱۸۴]

ترجمہ: ”اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کیلئے بہتر ہے۔“

۲ نماز نفل کے فضائل

① نماز نفل فرض نمازوں کو مکمل کرتی اور ان کے نقص کو پورا کرتی ہے

حضرت تیسیم الداری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا حُجِبَتْ لَهُ تَائِمَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكِهِ : انْظُرُوا هَلْ يَجِلُّونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ ، ثُمَّ الزَّكَاةَ كَذَلِكَ ، ثُمَّ تَوَخَّذُوا أَعْمَالًا عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ)

ترجمہ: ”روزِ قیامت بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہے، اگر اس نے اسے مکمل کیا ہوگا تو وہ اسے کیلئے مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے اسے مکمل نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا: ذرا دیکھو، میرے بندے نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی تھی یا نہیں؟ (اگر نفل نماز پڑھی تھی تو) اس کے ذریعے اس کی فرض نمازوں کو مکمل کر دو، پھر زکاة کا اور اس کے بعد باقی تمام اعمال کا حساب بھی

اسی طرح سے لیا جائے گا“۔

[ابوداؤد: ۸۶۳، ابن ماجہ: ۱۴۲۵۔ صحیحہ الالبانی]

② نماز نفل کے ذریعے درجات بلند ہوتے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان ہے کہ انہیں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
(عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ
اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ)

ترجمہ: ”تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ایک سجدہ
کرو گے تو وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا“
[مسلم: ۴۸۸]

③ کثرتِ نوافل نبی کریم ﷺ کے ساتھ جنت میں داخل ہونے
کے اسباب میں سے ایک سبب ہے

حضرت ربیعہ بن کعب الأسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے
پاس رات گزارتا تھا، ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی
اشیاء لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سوال کرو“ میں نے کہا: میں آپ سے اس بات کا
سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں! آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی
اور سوال؟ میں نے کہا: بس یہی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

(فَاعْنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)

”تم کثرتِ سجود کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو“ [مسلم: ۴۸۹]

③ نماز نفل جہاد کے بعد بدنی نوافل میں سب سے افضل عمل ہے

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَحْضُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ)

ترجمہ: ”تم استقامت اختیار کرو، اور تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے، اور اس بات پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز پڑھنا ہے، اور ایک سچا مومن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔“ [ابن ماجہ: ۲۷۷۷۔ صحیحہ لا لبانی]

یاد رہے کہ نوافل میں سے سب سے افضل نفلی عمل کے بارے میں علماء کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کے نزدیک علم سب سے افضل نفلی عبادت ہے، اور امام احمدؒ کے صحیح ترین قول کے مطابق جہاد سب سے افضل ہے، اور امام شافعیؒ کے نزدیک نماز سب سے افضل ہے۔

تاہم صحیح یہ ہے کہ اس کا دار و مدار مختلف احوال اور مختلف اوقات پر ہے، کیونکہ فوری مصلحت اور ضرورت کے مطابق ہو سکتا ہے کہ علم افضل ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جہاد افضل ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نماز افضل ہو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ علم بھی جہاد ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ پوری شریعت کا دار و مدار علم پر ہے، اور جہاد بھی علم پر مبنی ہے، اسی لئے امام احمدؒ کہتے ہیں کہ طلب علم اس شخص کیلئے سب سے افضل عمل ہے جس کی نیت درست ہو، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ نیت کیسے درست ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا: وہ یہ نیت کرے کہ وہ تواضع اختیار کرے گا اور اپنے آپ سے جہالت کو دور کرے گا، اور اس سے مراد نفلی علم ہے، نہ کہ فرضی۔

[الانصاف مع المقتنع والشرح الكبير: ۴/۱۰۰، لاخبار العلمیۃ من الاختیارات الفقہیۃ لابن تیمیہ: ۹۶، حاشیۃ الروض المربع لابن قاسم: ۲/۱۷۹، الشرح الممتع لابن عثیمین: ۴/۶-۷، کتاب العلم لابن عثیمین: ۲۵-۳۲، معالم فی طریق طلب العلم للسدحان: ۱۳-۱۵]

⑤ نماز نفل گھر میں برکت لاتی ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا قُضِيَ أَحَدُكُمْ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو وہ اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کیلئے بھی رکھے، کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر وبھلائی لاتا ہے“ [مسلم: ۷۷۸]

اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)

ترجمہ: ”اے لوگو! تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے، سوائے فرض نماز کے“۔

اور صحیح مسلم میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

(فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)

ترجمہ: ”تم اپنے گھروں میں بھی نماز ضرور پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ

ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے، سوائے فرض نماز کے“۔ [البخاری: ۷۳۱، مسلم: ۷۸۱]
 اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 (اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَعْبُدُوا مَا قُبُورًا)
 ترجمہ: ”تم کچھ نماز اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، اور انہیں قبرستان مت بناؤ“
 [البخاری: ۴۳۳، مسلم: ۷۷۷]

امام نوویؒ کہتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ نے گھر میں نماز نفل پڑھنے کی ترغیب دی، اس لئے کہ اس طرح
 انسان ریاکاری سے دور رہتا ہے اور اس کی نماز اعمال ضائع کرنے والے امور سے
 زیادہ محفوظ رہتی ہے، اور اس لئے کہ تاکہ گھر میں برکت آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل
 ہو، اور فرشتے آئیں اور شیطان بھاگ جائے“ [شرح مسلم: ۶/۳۱۴]

⑥ نفل عبادت بندے کی طرف اللہ تعالیٰ کی محبت پہنچ لاتی ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالٌ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا
 تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا قَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي
 يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَائِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
 وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا،
 وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ أَسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے
 خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ

حاصل کر سکتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، (یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے)، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان، جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں“ [البخاری: ۶۵۰۲]

اور اس حدیث سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ فرائض پر ہمیشگی کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور فرائض کے بعد نفلی نماز، نفلی روزہ، صدقہ، نفلی حج اور اس کے علاوہ باقی نفلی عبادات پر ہمیشگی کرنے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔
[فتح الباری ۱۱/۳۴۳]

② نفلی نماز سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھنسنے لگتے، میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ ﷺ ارشاد فرماتے:

(أَفَلَا أَتُكُونُ عَبْدًا خَگُورًا) ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟“

[البخاری: ۴۸۳۷، مسلم: ۲۸۲۰]

اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم ہو گیا، آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَفَلَا أَتُكُونُ عَبْدًا ضَعُفًا) ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ [البخاری: ۲۸۳۶، مسلم: ۲۸۱۹]

۳ نماز نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے

کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود نماز نفل بیٹھ کر پڑھی جاسکتی ہے، اور امام نوویؒ کا کہنا ہے کہ اس پر علماء کا اجماع ہے، [شرح صحیح مسلم ۶/۲۵۵]۔ اور یہ بھی درست ہے کہ نماز نفل کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر ادا کیا جائے، لیکن فرض نماز میں قیام فرض ہے، جو شخص طاقت کے باوجود کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ [شرح صحیح مسلم ۶/۲۵۶، ۲۵۸]

اور اس بارے میں احادیث ثابت ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی رات کی نماز کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ آپ ﷺ رات کو نو رکعات پڑھتے جن میں نماز وتر شامل ہوتی، اور آپ ﷺ کھڑے ہو کر لمبا قیام فرماتے اور پھر بیٹھ کر بھی لمبی نماز پڑھتے، اور جب آپ کھڑے ہو کر قراءت کرتے تو رکوع و سجود میں بھی قیام کی حالت سے جاتے، اور جب آپ بیٹھ کر قراءت کرتے تو رکوع و سجود بھی بیٹھ کر کرتے... [مسلم: ۷۳۰]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی رات

کی نماز میں بیٹھ کر قراءت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے تو آپ بیٹھ کر قراءت فرماتے، یہاں تک کہ جب کسی سورت کی تیس چالیس آیات باقی ہوتیں تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کی قراءت کر کے رکوع میں چلے جاتے۔ [بخاری: ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، مسلم: ۱۱۴۸]

اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے ایک سال قبل نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی، اور آپ کسی سورت کی قراءت شروع کرتے تو اسے ترتیل کے ساتھ پڑھتے یہاں تک کہ وہ انتہائی لمبی ہو جاتی۔ [مسلم: ۷۳۳]

اور جب طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا يَصِفُ الصَّلَاةَ)

ترجمہ: ”کسی شخص کا بیٹھ کر نماز پڑھنا آدمی نماز ہے“ [مسلم: ۷۳۵]

اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(إِنْ صَلَّيْ قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ يَصِفُ أَجْرُ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ يَصِفُ أَجْرُ الْقَاعِدِ)

ترجمہ: ”اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے، اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے، اور جو آدمی لیٹ کر نماز پڑھتا ہے اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملتا ہے“۔ [بخاری: ۱۱۱۵]

اور امام الخطابیؒ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ نفل نماز پڑھنے والا شخص بیٹھ کر نہ پڑھے، کیونکہ بیٹھ کر فرضی نماز پڑھنے کی اجازت تو صرف اس مریض کیلئے ہے جس کیلئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشقت ہو، اور اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے شخص کے آدھے اجر کا مستحق قرار دیا گیا ہے، تو اس کیلئے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے جواز کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے.... اور جو شخص لیٹ کر نماز نفل پڑھے باوجودیکہ وہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ اہل علم میں سے کسی نے اس کی رخصت نہیں دی۔

[فتح الباری: ۵۸۵/۲، اور میں نے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ کو امام الخطابیؒ کے اس کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ یہی بات سب سے زیادہ قریب ہے، اور رہا وہ شخص جس کو فرض نماز میں کھڑے ہونے اور بیٹھنے پر قدرت نہ ہو تو اس کیلئے کامل اجر ہے، اور نفل نماز پڑھنے والے شخص کو بغیر عذر کے لیٹ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے]

اور جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے اس کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ آلتی پالتی مار کر بیٹھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ [النسائی: ۱۶۶۱۔ صحیحہ لا لبانی]

امام ابن القیمؒ کہتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ کی رات کی نماز کی تین حالتیں تھیں:

۱۔ بحالت قیام (اور زیادہ تر آپ ﷺ اسی حالت میں نماز پڑھتے تھے)۔

۲۔ کبھی کبھی آپ ﷺ بیٹھ کر نماز پڑھتے اور اسی حالت میں رکوع بھی کرتے۔

۳۔ اور کبھی کبھی آپ ﷺ بیٹھ کر قراءت کرتے اور جب آپ کی قراءت کا کچھ حصہ باقی ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور رکوع بحالت قیام فرماتے۔ اور یہ تینوں حالتیں آپ ﷺ سے ثابت ہیں۔ [زاد المعاد: ۱/۳۳۱]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ سے سنا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام روایات کو جمع کیا جائے تو آپ ﷺ کی رات کی نماز کی چار کیفیات سامنے آتی ہیں:

- ۱۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے اور کھڑے ہو کر ہی رکوع کرتے۔
- ۲۔ بیٹھ کر قراءت کرتے، پھر جب تیس / چالیس کے قریب آیات باقی ہوتیں تو آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے اور قراءت مکمل کر کے رکوع میں چلے جاتے۔
- ۳۔ بیٹھ کر قراءت کرتے اور جب قراءت ختم ہو جاتی تو کھڑے ہو کر رکوع میں چلے جاتے۔

۴۔ پوری نماز بیٹھ کر ہی پڑھتے۔ [یہ بات انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث ۱۱۱۸ اور ۱۱۱۹ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]

❶ حالت سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کا جواز، چاہے سفر لمبا ہو یا مختصر سواری پر نفل نماز پڑھنا درست ہے، چاہے وہ کار ہو یا جہاز ہو، کشتی ہو یا کوئی اور سواری ہو، لیکن فرض نماز کیلئے سواری سے اترنا لازم ہے، سوائے اس کے کہ اس سے اترنا ناممکن ہو، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ سفر کے دوران سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا رسول اللہ ﷺ اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، آپ رات کی نماز میں اپنے سر سے اشارہ کرتے، ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پر نہیں

پڑھتے تھے، اور نماز وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے۔

[البخاری: ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۹۵، ۱۰۹۸، ۱۰۹۵، ۱۱۰۵، مسلم: ۷۰۰]

اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، ان کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ سفر کی حالت میں آپ کی سواری کا رخ چاہے کسی طرف بھی ہوتا آپ رات کی نفل نماز اپنی سواری کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہی پڑھ لیتے تھے۔ [البخاری: ۱۰۹۳، ۱۱۰۴، مسلم: ۷۰۱]

اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا، آپ اس پر نماز پڑھ لیتے، پھر جب فرض نماز کے پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو نیچے اترتے اور قبلہ رخ ہو کر نماز ادا فرماتے۔ [البخاری: ۴۰۰، ۱۰۹۴، ۱۰۹۹، ۱۱۴۰]

اور اسی معنی میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ [مسلم: ۷۰۲]

اور جب سواری پر نماز پڑھنی ہو تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب حالت سفر میں ہوتے، اور نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلہ کی جانب کر لیتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے، اس کے بعد سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا آپ ﷺ نماز پڑھتے رہتے۔

[ابوداؤد: ۱۲۲۵۔ وحسنہ الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام: رقم الحدیث: ۲۲۸]

لیکن اگر ایسا نہ کرے تو بھی نماز درست ہوگی، جیسا کہ مختلف احادیث سے ثابت ہے۔ اور اسی بات کو امام عبدالعزیز بن باز نے راجح قرار دیا ہے۔ [یہ بات میں نے ان سے بلوغ المرام کی مذکورہ حدیث کی شرح کے دوران سنی تھی]

اور امام نوویؒ نے ذکر کیا ہے کہ جس سفر میں نماز قصر ہو سکتی ہو اس میں سواری پر نفل

نماز پڑھنا جائز ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ [شرح صحیح مسلم: ۵/۲۱۶]
 اور رہا وہ سفر جس میں نماز قصر نہیں ہو سکتی تو اس میں بھی نفل نماز سواری پر پڑھی جا
 سکتی ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَانْجِبُوا لِحُجَّتِهِ إِنَّ اللَّهَ أَسْعٰ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۱۵]

ترجمہ: ”اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جہر بھی رخ کرو گے ادھر ہی
 اللہ کا رخ ہے، بلاشبہ اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔“

[مزید تفصیلات کیلئے دیکھئے: فتح الباری لابن حجر: ۵/۵۷۵، شرح صحیح مسلم للنووی:
 ۵/۲۱۷، المغنی لابن قدامہ: ۲/۹۶]

اور ابن جریر الطبریؒ نے اس بات کو رائج قرار دیا ہے کہ اس آیت میں بحالت سفر
 سواری پر نماز نفل پڑھنا بھی شامل ہے، چاہے سواری کا رخ کسی طرف ہو۔
 [جامع البیان: ۳/۵۳۰]

اور حافظ ابن حجرؒ نے ابن جریر الطبریؒ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے
 جمہور کے مذکورہ مذہب کیلئے ایک دلیل یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر
 کیلئے تیمم کی اجازت دی ہے، اور علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ جو شخص شہر سے
 ایک میل یا اس سے کم مسافت پر باہر ہو اور اس کی نیت اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنا ہو،
 مزید سفر کرنا نہ ہو، اور اسے پانی نہ ملے تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے، لہذا اتنی کم مسافت پر
 جب تیمم کرنا جائز ہے تو سواری پر نماز نفل پڑھنا بھی اس کیلئے جائز ہے، کیونکہ دونوں
 اس رخصت میں شریک ہیں۔ [فتح الباری: ۲/۵۷۵]

۵ نماز نفل اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے

نماز نفل مسجد میں، گھر میں، اور ہر پاکیزہ مقام (جیسے صحراء وغیرہ) پر پڑھی جاسکتی ہے، لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے، سوائے اس نفل نماز کے جس کی جماعت مشروع ہے، مثلاً نماز ترواح، تو اسے مسجد میں باجماعت پڑھنا ہی افضل ہے۔

اور اس سلسلے میں متعدد احادیث ثابت ہیں، ان میں سے ایک حدیث کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ)

ترجمہ: ”آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے“۔ [البخاری: ۷۳۱، مسلم: ۷۸۱]

اس کے علاوہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایات بھی ہیں، اور سب کی سب اس بات کی دلیل ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ اور اسی طرح اس نماز کے علاوہ جس کیلئے جماعت مشروع کی گئی ہے، باقی تمام نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔

۱ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نفلی عبادت وہ ہے جو

ہمیشہ کی جائے

اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سے سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی، اسی دوران رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے، آپ ﷺ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: یہ فلاں عورت ہے، رات کو نہیں

سوتی اور یہ اپنی نماز کا تذکرہ کر رہی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: (مَنْ، عَلَيْكُمْ مَا يَتَّقُونَ مِنَ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)

ترجمہ: ”ٹھہر جاؤ، تم اتنا عمل کیا کرو جتنا تمہاری طاقت میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کتا تا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ“

اور آپ ﷺ کو وہی عمل سب سے زیادہ محبوب تھا جسے اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے۔ [بخاری: ۱۱۵۱، ۷۸۵]

یاد رہے کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے اکتانے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ مخلوق کے کتانے کی طرح نہیں کہ جو عیب اور نقص شمار کیا جاتا ہے، بلکہ یہ اسی طرح ہے جیسا کہ اس کی شایان شان ہے۔ اور میں نے امام عبدالعزیز بن باز سے سنا تھا کہ یہ (اکتانا) بھی اسی صفت کی طرح ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک ثواب منقطع نہیں کرتا جب تک خود بندے عمل نہ چھوڑ دیں۔ [یہ بات میں نے ان سے بخاری کی حدیث: ۱۹۷۰ کی شرح کے دوران سنی تھی]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی ہے، آپ نے پوچھا: برسی کیسی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا:

یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کیلئے ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں، پھر جب تھک جاتی ہیں تو اسی کی کا سہارا لے لیتی ہیں! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا، حُلُوهُ، يُصَلُّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقْعُدْ)

ترجمہ: ”نہیں، اسے کھول دو، اور تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب

تک کہ وہ چست ہو، اور جب تھک جائے تو وہ بیٹھ جائے“

[البخاری ۱۱۵۰، مسلم: ۷۸۳]

اور مسروقؒ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کونسا عمل نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ عمل جو ہمیشہ جاری رہے، میں نے کہا: آپ ﷺ قیام کیلئے کب بیدار ہوتے تھے؟ انہوں نے کہا: جب مرغی کی آواز سنتے۔ [البخاری ۱۱۳۲، مسلم: ۷۴۱]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(خَلُّوْا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُوْنَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا)

ترجمہ: ”تم اپنی طاقت کے مطابق ہی عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتاتا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ“۔

اور آپ ﷺ کو وہ نماز زیادہ محبوب تھی جس پر بیٹگی کی جائے چاہے وہ تھوڑی کیوں نہ ہو، اور خود نبی کریم ﷺ جب کوئی نماز شروع کرتے تو اسے ہمیشہ جاری رکھتے۔ [البخاری ۱۹۷۰، مسلم: ۷۸۳]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ السَّمْنَ بُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدُّوْا وَقَارِبُوْا ، وَأَبْشِرُوْا ، وَاسْتَعِينُوْا بِالْغُلُوْةِ وَالرُّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدَّلَاجَةِ)

ترجمہ: ”دین (اسلام) یقیناً آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آجائے گا، لہذا تم (افراط و تفریط سے بچتے ہوئے) درمیانی راہ اختیار کرو، قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ، اور صبح، شام اور کچھ رات کے حصے میں عبادت کر کے مدد

طلب کرو۔ [البخاری: ۳۹]

اور ایک روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں: (لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ) ”کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کو بھی نہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا: (لَا، إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلِ وَرَحْمَةٍ، فَسَدُّوا وَقَارِئُوا، وَلَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يُزَادَ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ)

ترجمہ: ”نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے، لہذا تم درمیانی راہ پر چلتے رہو، اور حسب طاقت درستی کی کوشش کرو، اور قریب رہو، اور تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو شاید اس کی نیکی میں اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہوگا تو شاید وہ توبہ کر لے۔“

[البخاری: ۵۶۷۳، مسلم: ۲۸۱۶۔ واللفظ للبخاری]

اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(سَدُّوْا وَقَارِئُوا، وَاعْلَمُوا وَزُؤُحُوا، وَهَبْنَا مِنَ الدَّلِجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبَلَّغُوا) [البخاری: ۶۳۶۳]

ترجمہ: ”تم میانہ روی اختیار کرو، (اعتدال کے) قریب رہو، اور صبح کے وقت بھی عبادت کرو، اور شام کے وقت (دوپہر کے بعد) بھی، اور اسی طرح رات کے کچھ حصے میں بھی عبادت کرو، اور میانہ روی ہی اختیار کرنا تاکہ تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔“

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب رسول اکرم ﷺ کی عبادت کے بارے میں

پوچھا گیا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ آپ ﷺ جو عمل کرتے اسے ہمیشہ جاری رکھتے، اور پھر فرمائیں، تم میں سے کون ہے جو عبادت کرنے کی اتنی طاقت رکھتا ہو جتنی نبی کریم ﷺ رکھتے تھے! [البخاری: ۶۳۶۶، مسلم: ۷۸۳]

اور مذکورہ تمام احادیث میں عمل صالح پر بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل بھی وہی ہے جسے ہمیشہ جاری رکھا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور ان میں اس بات کی دلیل بھی ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کی جائے اور سختی اور تشدد سے اجتناب کیا جائے۔

● نماز نفل کبھی کبھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاسکتی ہے

نماز نفل کبھی کبھی باجماعت ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ ﷺ نے خوب لمبی نماز پڑھائی، یہاں تک کہ میں نے برا ارادہ کر لیا، ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور چھوڑ کر چلا جاؤں۔ [البخاری: ۱۱۳۵، مسلم: ۷۷۳]

اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کر دی، میں نے دل میں کہا: شاید آپ سو آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ نے قراءت جاری رکھی، میں نے دل میں کہا: شاید آپ اسے دو رکعات میں مکمل کریں گے، لیکن آپ نے قراءت جاری رکھی، میں نے دل میں کہا: شاید اسے مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اسے ختم کر کے سورۃ النساء شروع کر دی، اور اسے بھی ختم کر دیا، پھر آپ نے سورۃ

عمران شروع کر دی، اور اسے بھی ختم کر دیا، اور آپ ٹھہر ٹھہر کر قراءت کر رہے تھے، کسی تسبیح والی آیت سے گزرتے تو وہاں تسبیح پڑھتے، اور جب سوال والی آیت سے رتے تو وہاں سوال کرتے، اور جب پناہ والی آیت سے گزرتے تو وہاں پناہ طلب تے... [مسلم: ۷۷۲]

اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم ﷺ، ساتھ (نماز میں) کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ البقرۃ کی قراءت فرمائی، اور آپ جب ت والی آیت سے گزرتے تو رک جاتے اور (رحمت کا) سوال کرتے، اور جب اب والی آیت سے گزرتے تو رک کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا، اور وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا قیام تھا، آپ رکوع میں یہ دعا بار بار پڑھتے ہے: (مُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكَبِيرِ بَاءً، وَالْعَظَمَةِ)، آپ ﷺ نے قیام ہی کے بقدر سجدہ کیا، اور سجدے میں بھی یہی دعا پڑھتے رہے، پھر ب آپ دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے تو اس میں سورۃ آل عمران کی تلاوت مائی، اس کے بعد ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔

[ابوداؤد: ۸۷۳، الترمذی: ۱۰۴۹۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اکرم ﷺ کی نماز کی کیفیت بیان کی ہے، ن میں یہ ہے کہ آپ ﷺ نے رات کو قیام فرمایا، اور میں بھی آپ ﷺ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا... [بخاری: ۹۹۲، مسلم: ۷۷۳]

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی دادی حضرت ملیکہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کی دعوت دی جو کہ انہوں نے خود تیار کیا تھا، آپ ﷺ

تشریف لائے، اور اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا: (قُومُوا فَأَصْلَى لَكُمْ) ”کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں نماز پڑھاؤں“۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک چٹائی بچائی جو کہ طویل عرصے سے پڑی سیاہ ہو چکی تھی، میں نے اس پر پانی بہایا، اور رسول اللہ ﷺ اس پر کھڑے ہو گئے، میں اور ایک یتیم (ہم دونوں) نے آپ ﷺ کے پیچھے صف بنائی، اور بوڑھی دادی جان ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو رکعات پڑھائیں اور پھر چلے گئے۔ [بخاری: ۲۸۰، مسلم: ۶۵۸]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے گھر تشریف لائے، گھر میں صرف وہ، ان کی والدہ اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا (حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ) تھیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: (قُومُوا فَأَصْلَى بِكُمْ) ”کھڑے ہو جاؤ، تاکہ میں تمہیں نماز پڑھاؤں“ جبکہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہ تھا، پھر آپ ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنی دائیں جانب کھڑا کیا، اور خاتون کو اپنے پیچھے، اور انہیں نماز پڑھائی۔ [بخاری: ۲۸۰، مسلم: ۶۶۰]

اور حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو نماز پڑھایا کرتے تھے، پھر ان کی نظر کمزور پڑ گئی، اور اچانک بارشیں آئیں اور ان کے اور ان کی قوم کے درمیان ایک وادی حائل ہو گئی جسے عبور کرنا ان کیلئے مشکل ہو گیا، چنانچہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے گھر تشریف لائیں اور ان کے گھر کے کسی کو نے میں نماز پڑھیں تاکہ وہ اسی جگہ کو اپنی مستقل جائے نماز بنالیں، تو آپ ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور ابھی گھر میں بیٹھے ہی تھے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (أَيْنَ نَحْبُ أَنْ أَصْلَى مِنْ بَيْتِكَ؟) ”تم اپنے گھر میں کہاں یہ چاہتے ہو

کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟“، انہوں نے اپنی پسندیدہ جگہ کی طرف اشارہ کیا، تو آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ ﷺ کے پیچھے صف بنائی، آپ ﷺ نے تکبیر کہی، پھر دو رکعات پڑھیں، پھر سلام پھیرا، اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ ہی سلام پھیرا.... اور اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ (فَبَانَ اللَّهُ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے خالصتاً اللہ کی رضا کیلئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا“۔ [البخاری: ۱۱۸۶، مسلم: ۳۳]

ان تمام احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی نماز تراویح کے علاوہ بھی نفل نماز باجماعت پڑھی جاسکتی ہے، لیکن اسے ہمیشہ کیلئے عادت بنانا درست نہیں ہے، کبھی کبھی ایسے کیا جاسکتا ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کی اکثر و بیشتر نفل نماز اکیلے ہی ہوتی تھی۔

[شرح صحیح مسلم للنووی: ۵/۱۶۸، نیل الأوطار: ۲/۲۷۵، المغنی لابن قدامة: ۲/۵۶۷، الشرح لمصح لابن عثیمین: ۴/۸۳]

۸ نماز نفل کی اقسام

نماز نفل کی کئی اقسام ہیں، مثلاً فرض نمازوں سے پہلے اور بعد کی دائمی سنتیں، نماز وتر، نماز چاشت، اور اسی طرح وہ نماز نفل جس کیلئے جماعت مشروع ہے، اور عمومی نفل نماز، اور خصوصی نفل نماز، اور سبھی نفل نماز... وغیرہ، یہ سب اقسام نماز نفل میں ہی شامل ہیں۔

پہلی قسم: دائمی سنتیں، اور یہ تین ہیں: (فرض نمازوں کی مَوَکَدَہ سنتیں + نماز وتر + نماز چاشت)

① فرائض کے ساتھ مَوَکَدَہ سنتیں، اور وہ بارہ رکعات ہیں، جیسا

کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى اِتْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)

ترجمہ: ”جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھتا ہے اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔“

اور دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

(مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ اِتْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ

فَرِيضَةٍ اِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اَوْ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ)

ترجمہ: ”جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے بارہ رکعات نفل (جو کہ فرض

نہیں) ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یا اس کیلئے جنت

میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔“

یہ حدیث بیان کر کے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: (مَا رَكْعَتُهُنَّ مِنْهُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

یعنی ”میں نے جب سے ان بارہ رکعات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے تب سے انہیں کبھی نہیں چھوڑا“۔ [مسلم: ۷۲۸]

اور ان بارہ رکعات کی تفصیل سنن الترمذی میں موجود ہے، چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً بَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)

ترجمہ: ”جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعات پڑھتا ہے اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنادیا جاتا ہے: ظہر سے پہلے چار، اور اس کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، اور فجر سے پہلے دو رکعات“۔ [الترمذی: ۳۱۵۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعُ رُكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرُكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرُكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ)

ترجمہ: ”جو شخص نماز سنت کی بارہ رکعات کی ادائیگی پر ہمیشہ کوشاں رہا، اس کیلئے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے: ظہر سے پہلے چار، اور اس کے بعد دو، مغرب کے بعد دو، عشاء کے بعد دو، اور فجر سے پہلے دو رکعات“

[الترمذی: ۴۱۴، ابن ماجہ: ۱۱۴۰۔ صحیحہ لألبانی]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعات اور فجر سے پہلے دو رکعات کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ [البخاری: ۱۸۲]

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعات اچھی طرح سے حفظ کر لی ہیں:

”ظہر سے پہلے دو رکعات، اور اس کے بعد دو رکعات، اور مغرب کے بعد دو رکعات جو کہ آپ ﷺ اپنے گھر میں جا کر ادا کرتے تھے، اور اسی طرح عشاء کے بعد دو رکعات بھی، اور دو رکعات فجر سے پہلے، اور ایک روایت میں ہے: اور جمعہ کے بعد دو رکعات اپنے گھر میں“ [البخاری: ۱۱۸، ۱۱۷۲، ۹۳۷، مسلم: ۷۲۹]

لہذا فرض نمازوں کی سنتیں بارہ رکعات ہیں جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، یاد اس میں جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے، اور میں نے امام ابن بازؒ سے سنا تھا کہ جو شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث پر عمل کرتا ہے وہ دس رکعات کا قائل ہے، اور جو شخص حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو سامنے رکھتا ہے وہ بارہ رکعات کا قائل ہے، اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی تائید ترمذی کی حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ان بارہ رکعات کی تفصیل موجود ہے، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ان کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کبھی بارہ رکعات پڑھتے ہوں، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایات میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ ﷺ دس رکعات پڑھتے ہوں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، لہذا کوئی

مسلمان جب اپنے اندر نشاط محسوس کرے تو بارہ رکعات پڑھ لے، اور جب اسے کوئی مشغولیت ہو تو وہ دس رکعات بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن بارہ رکعات پڑھنا افضل ہے، اور یہ سب فرض نمازوں کی سنتیں ہیں۔ [یہ بات انہوں نے بلوغ المرام کی حدیث نمبر ۳۷۴ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]

۲ فرض نمازوں کی مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کی تفصیل

① ظہر سے پہلے چار رکعات، اور اسی طرح اس کے بعد بھی چار رکعات، جیسا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ حَافِظٌ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ) ترجمہ: ”جو آدمی ظہر سے پہلے چار رکعات اور اس کے بعد بھی چار رکعات پڑھتی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے“

[احمد فی المسند ۶/۳۲۶، ابوداؤد: ۱۲۶۹، الترمذی: ۴۲۷، وقال: حدیث حسن، والنسائی: ۱۸۱۴، وابن ماجہ: ۱۱۶۰، صحیحہ لألبانی۔ اور میں نے امام ابن باز سے بلوغ المرام کی حدیث ۳۸۱ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ اس حدیث کی سند اچھی ہے، لیکن جس بات پر نبی کریم ﷺ نے بیٹگی کی وہ وہ ہے جس کا ذکر حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ہے۔ اور میں نے انہیں اپنی زندگی کے آخر میں دیکھا کہ آپ ظہر سے پہلے اور اسی طرح اس کے بعد بھی چار رکعات بیٹھ کر پڑھتے تھے]

② عصر سے پہلے چار رکعات

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً أَصَلَّتْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے عصر سے پہلے چار رکعات ادا کیں“ [احمد فی المسند ۲/ ۱۱۷، ابوداؤد: ۱۲۷۱، الترمذی: ۴۳۰، وقال: حدیث حسن، وابن خزمیہ: ۱۱۹۳۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عصر سے پہلے دو رکعات پڑھتے تھے۔ [ابوداؤد: ۱۲۷۲۔ اور الشیخ لا لبانی نے اسے حسن کہا ہے لیکن چار رکعات کے الفاظ کے ساتھ]

اور میں نے امام ابن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث ۳۸۲ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ اس حدیث کی سند اچھی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عصر سے پہلے چار رکعات پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ سنن مؤکدہ میں سے نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے ان پر ہمیشگی نہیں کی، اور حدیث علی رضی اللہ عنہ میں ہے کہ آپ ﷺ عصر سے پہلے دو رکعات پڑھتے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ عصر سے پہلے کبھی چار رکعات پڑھ لے اور کبھی دو پڑھ لے۔

۵) مغرب سے پہلے دو رکعات اور اسی طرح اس کے بعد بھی دو رکعات حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم ﷺ کی موجودگی میں غروب شمس کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعات پڑھتے تھے۔ [مسلم: ۸۳۶]

اور دوسری روایت میں ان کا بیان یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، اور جب مؤذن اذان کہتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جلدی جلدی ستونوں کی طرف جاتے اور دو رکعات ادا کرتے، یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والا کوئی شخص مسجد کے اندر پہنچتا تو وہ یہ سمجھتا کہ مغرب کی نماز پڑھی جا چکی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی تعداد یہ دو

رکعات پڑھتی تھی۔ [البخاری: ۶۲۵، مسلم: ۸۳۷]

اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ) قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)

ترجمہ: ”مغرب سے پہلے نماز پڑھو، (دو بار ارشاد فرمایا، اور تیسری بار فرمایا: جو چاہے پڑھے) (اور جو چاہے نہ پڑھے)“ [البخاری: ۱۱۸۳، مسلم: ۷۳۶۸]

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کیں۔ [صحیح ابن حبان: ۳/۴۵۷، برقم: ۱۵۸۸۔ وقال شعيب لا رنا و ط: إسناده على شرط مسلم]

اور حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)

ترجمہ: ”ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، (پھر تیسری بار فرمایا: جو چاہے پڑھے)۔“ [البخاری: ۶۲۴]

دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔

اور یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ مغرب سے پہلے دو رکعات نبی کریم ﷺ کی قوی، فعلی اور تقریری سنت ہے۔

اور رہیں مغرب کے بعد دو رکعات تو وہ سنت مؤکدہ ہیں، جیسا کہ ہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احادیث کے حوالے سے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔

اور مغرب کے بعد دو رکعات میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا پڑھنا مسنون

ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے مغرب کے بعد دو رکعات اور فجر سے پہلے دو رکعات میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو اتنی مرتبہ سنا کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ [الترمذی: ۴۳۱ و قال: حدیث حسن صحیح، ابن ماجہ: ۱۱۶۶۔ و صحیحہ (البانی)]

④ عشاء سے پہلے دو رکعات اور اسی طرح اس کے بعد دو رکعات حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ) قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (لِمَنْ شَاءَ)

ترجمہ: ”ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، (پھر تیسری بار فرمایا:) جو چاہے پڑھے“۔ [البخاری: ۶۲۴]

دو اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے۔

اور رپیں عشاء کے بعد دو رکعات تو وہ سنت مؤکدہ ہیں، جیسا کہ ہم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی احادیث کے حوالے سے یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔

⑤ فجر سے پہلے دو رکعات، اور یہ تمام سنن مؤکدہ میں سے سب سے زیادہ اہم ہیں، اور اس کی نو وجوہات ہیں:

۱۔ نبی کریم ﷺ کا ان دو رکعات کا شدت سے اہتمام کرنا ان کی عظمت کی دلیل ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نوافل میں جتنا اہتمام فجر کی دو رکعات کا کرتے تھے اتنا کسی اور نفل نماز کا نہیں کرتے تھے۔

[البخاری: ۱۱۶۹، مسلم: ۷۲۳]

۲۔ نبی کریم ﷺ نے خصوصی طور پر ان دو رکعات کی فضیلت بیان فرمائی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)

ترجمہ: ”فجر کی دو رکعات دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے، اس سے بہتر ہیں“

[مسلم: ۷۲۵]

۳۔ فجر کی دو سنتوں میں تخفیف کرنا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی فرض نماز سے پہلے دو رکعات میں اس قدر تخفیف فرماتے کہ میں (دل میں) یہ کہتی کہ کیا آپ ﷺ نے سورت فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں!

[البخاری: ۱۱۷۱، مسلم: ۷۲۳]

۴۔ اس کا وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان کہہ کر خاموش ہوتا اور صبح صادق ظاہر ہو جاتی تو نبی کریم ﷺ اقامت سے پہلے ہلکی سی دو رکعات پڑھتے تھے۔

[البخاری: ۶۱۸، مسلم: ۷۲۳]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان ہلکی سی دو رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ [البخاری: ۶۱۹، مسلم: ۷۲۳]

۵۔ فجر کی دو سنتوں کے بعد فجر کی فرض نماز ہی پڑھی جاسکتی ہے، جیسا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو نبی کریم ﷺ صرف ہلکی سی دو رکعات ہی پڑھتے تھے۔ [مسلم: ۷۲۳]

۶۔ فجر کی دو سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کا پڑھنا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعات میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ [مسلم: ۷۲۶]

یا پہلی رکعت میں سورۃ البقرۃ کی آیت (۱۳۶)۔ ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا...﴾ اور دوسری رکعت میں سورت آل عمران کی آیت (۵۲)۔ ﴿آمَنَّا بِاللّٰهِ وَاهْذِبْنَا يَا اَبَا مُسْلِمُوْنَ﴾ پڑھتے تھے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی دو رکعتوں میں ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا...﴾ اور ﴿تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ مَّوَاہِبِنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ پڑھتے تھے۔ [مسلم: ۷۲۷]

۷۔ فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنا مسنون ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی سنتیں پڑھ لیتے تو اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے تھے۔ [البخاری: ۱۱۶۰، مسلم: ۷۳۶]

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب مؤذن فجر کی اذان کہہ کر خاموش ہوتا اور فجر صادق واضح ہو جاتی اور مؤذن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے اور ہلکی سی دو رکعات ادا کرتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، (پھر بدستور لیٹے رہتے) یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت کیلئے آ جاتا۔ [مسلم: ۷۳۶]

۸۔ فجر کی سنتوں کو سفر و حضر میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ فجر کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ [البخاری: ۱۱۵۹، مسلم: ۷۳۳]

اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ سفر و حضر دونوں حالتوں میں فجر کی سنتیں

پڑھتے رہتے تھے۔

[المغنی لابن قدامہ: ۳/۱۹۶، زاد المعاد لابن القیم: ۱/۳۱۵، فتح الباری: ۳/۴۳،
مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۳۹۰، الشرح الممتع لابن عثیمین: ۴/۹۶]

۹۔ فجر کی سنتوں کی قضا، جس شخص کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ فجر کی فرض نماز کے بعد یا سورج کے بلند ہونے کے بعد انہیں پڑھ سکتا ہے، حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (مسجد میں) تشریف لائے، نماز کی اقامت کہی گئی، میں نے آپ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ ﷺ (گھر کو) جانے لگے تو آپ نے مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَهْلًا يَا قَيْسُ! أَصَلَّاتَانِ مَعًا؟) ”تھہر جاؤ قیس! کیا دو نمازیں ایک ساتھ؟“

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں!

آپ ﷺ نے فرمایا: (فَلَا إِذْنُ) ”تب کوئی بات نہیں“۔

[الترمذی: ۴۲۲۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت قیس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے فجر کی نماز ہونے کے بعد دو رکعات ادا کیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

(صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ) ”نماز فجر کی صرف دو رکعات ہیں“

اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: (أَصَلَاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ؟)

”کیا تم نے فجر کی نماز دو مرتبہ ادا کی ہے؟“

اس نے کہا: میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں، اب وہی سنتیں میں نے ادا کی ہیں! تو رسول اللہ ﷺ نے خاموشی اختیار فرمائی۔

[ابوداؤد: ۱۲۶۷، ابن ماجہ: ۱۱۵۴۔ صحیحہ الالبانی]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكَعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ)

ترجمہ: ”جو شخص فجر کی دو رکعات نہ پڑھ سکا، وہ طلوع آفتاب کے بعد انہیں ادا

کر لے“۔ [الترمذی: ۴۲۳، ابن حبان: ۴۲۷۲ وغیرہما۔ صحیحہ الالبانی]

اور نبی کریم ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب آپ سفر میں نماز فجر کے وقت سوئے رہ گئے، تو آپ ﷺ نے فجر کی سنتیں بھی قضا کیں، اور انہیں فرض نماز سے پہلے ادا کیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرض نماز ادا فرمائی، اور یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد تھا۔ [مسلم: ۶۸۱]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ فجر کی سنتیں نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تھے، اس لئے آپ ﷺ نے انہیں طلوع آفتاب کے بعد قضا کیا۔ [ابن ماجہ: ۱۱۵۵۔ صحیحہ الالبانی]

⑥ جمعہ کے بعد چار رکعات

جمعہ سے پہلے مسلمان، مطلق نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی، بلکہ امام کے منبر پر آنے تک اسے نفل نماز اور ذکر وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے، البتہ جمعہ کے بعد چار رکعات کا پڑھنا سنت ہے، اور اس بارے میں وارد احادیث درج ذیل ہیں:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت؛ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعات اچھی طرح حفظ کر لیں، ان میں جمعہ کے بعد دو

رکعات گھر جا کر ادا کرنا بھی شامل ہے۔ [البخاری: ۱۸۲]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا صَلَّيْ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کے بعد چار رکعات پڑھے۔“ اور دوسری روایت میں اس کے الفاظ یوں ہیں:

(إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوا أَرْبَعًا)

یعنی ”جب تم نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہو تو چار رکعات پڑھو“

اور ایک اور روایت میں اس کے الفاظ درج ذیل ہیں:

(مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کے بعد نماز پڑھنے والا ہو تو وہ چار رکعات پڑھے۔“

اس حدیث کے ایک راوی (سہیل) کا کہنا ہے کہ اگر تمہیں جلدی ہو تو دو رکعات مسجد میں اور دو رکعات گھر جا کر ادا کر لیا کرو۔ [مسلم: ۸۸۱]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب نماز جمعہ ادا کر کے گھر کو لوٹتے تو دو رکعات پڑھتے، اس کے بعد فرماتے: رسول اللہ ﷺ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ [مسلم: ۸۸۲]

اور جمعہ کے بعد نماز سنت کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، ان میں سے بعض کا کہنا ہے کہ جمعہ کے بعد چار رکعتیں پڑھنا سنت ہے، اور ان کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ گھر جا کر دو رکعتیں پڑھنا سنت ہے، اور ان کی دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں

رسول اللہ ﷺ کا فعل ذکر کیا گیا ہے، اور امام ابن القیمؒ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ امام ابن تیمیہؒ سے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں نماز پڑھے تو وہ چار رکعات پڑھے، اور اگر وہ گھر میں جا کر پڑھے تو دو رکعتیں پڑھے، پھر ابن القیمؒ نے کہا: اور احادیث بھی اسی بات پر دلالت کرتی ہیں، اور ابو داؤد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ جب مسجد میں نماز پڑھتے تو چار رکعتیں پڑھتے، اور جب گھر جا کر پڑھتے تو صرف دو رکعتیں پڑھتے۔

[أبو داؤد: ۱۱۳۰۔ صحیحہ لألبانی]۔ [زاد المعاد: ۱/۴۴۰]

اور امام صنعانیؒ کہتے ہیں: چار رکعات پڑھنا دو رکعات پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کا حکم دیا ہے۔ [سبل السلام: ۳/۱۸۱]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبد اللہ بن بازؒ سے سنا تھا کہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، چنانچہ ان میں سے بعض نے تمام روایات کو جمع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھے تو چار رکعات پڑھے، اور اگر گھر میں جا کر پڑھے تو صرف دو رکعات پڑھے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ جمعہ کے بعد نماز سنت کی کم از کم مقدار دو رکعات اور زیادہ سے زیادہ چار رکعات ہے، چاہے کوئی مسجد میں پڑھے یا گھر میں، اور یہی قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آپ ﷺ کا قول، فعل پر مقدم ہے، اور چار رکعات پڑھنا ہی افضل ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے چار ہی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ [یہ بات انہوں نے بلوغ المرام کی حدیث نمبر ۴۸۴ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]

اور جہاں تک جمعہ سے پہلے نفل نماز کا تعلق ہے تو اس کی مقدار مقرر نہیں کی گئی، جیسا

کہ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ ،
وَيَلْبَسُ مِنْ ذَهَبِهِ ، أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْنَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يَفْرُقُ بَيْنَ
النِّسْنِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كَتَبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى) [بخاری : ۸۸۳]

ترجمہ: ”جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے ، اور حسب استطاعت پوری طہارت کرے ، اور تیل لگائے ، یا اپنے گھروالوں کی خوشبو لگائے ، پھر (مسجد میں پہنچ کر) دو آدمیوں کو جدا جدا نہ کرے ، (جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائے) ، پھر وہ نماز ادا کرے جتنی اس کے (مقدور میں) لکھی گئی ہے ، پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموشی سے سنے ، تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ ، فَصَلَّى مَا قُلِّلَ لَهُ ، ثُمَّ انْصَتَ حَتَّى
يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
وَفُضِّلَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)

ترجمہ: ”جو شخص غسل کرے ، پھر نماز جمعہ کیلئے آئے ، اور (مسجد میں پہنچ کر) نماز ادا کرے جتنی اس کیلئے مقدور کی گئی ہے ، پھر وہ خطیب کا خطبہ ختم ہونے تک خاموشی سے خطبہ سنتا رہے ، پھر اس کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے ، تو دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں ، اور مزید تین دن کے بھی“۔ [مسلم : ۸۵۷]

امام ابن القیمؒ کہتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے اس کیلئے اتنی نماز کو مستحب قرار دیا جتنی

اس کیلئے لکھی گئی ہے، اور اسے نماز پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، الا یہ کہ امام منبر پر چلا جائے تو وہ نماز پڑھنا بند کر دے، اور اسی لئے بہت سارے سلف صالحین نے، جن میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شامل ہیں، اور انہیں کی پیروی امام احمد بن حنبلؒ نے بھی کی ہے، یہ موقف اختیار کیا ہے کہ امام کا منبر پر جانا نماز کیلئے، اور اس کا خطبہ شروع کرنا کلام کیلئے مانع ہے، سو ان کے نزدیک نماز سے روکنے والی چیز امام کا منبر پر جانا ہے نہ کہ سورج کا نصف النہار تک پہنچنا ہے۔

اور امام ابن القیمؒ نے ذکر کیا ہے کہ یوم جمعہ کو زوال سے پہلے امام کے منبر پر جانے تک نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ امام شافعیؒ کا مذہب ہے اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اختیار کیا ہے۔ [زاد المعاد: ۱/۳۷۸]

ہاں اگر نمازی مسجد میں تاخیر سے پہنچے، اور وہ اس وقت مسجد میں داخل ہو جب امام منبر پر جا چکا ہو تو اسے اس حالت میں صرف ہلکی سی دو رکعات ہی تحیۃ المسجد کے طور پر پڑھنی چاہئیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک شخص آیا، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: اے فلان! کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا: نہیں، آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعات پڑھو۔ اور ایک روایت میں فرمایا:

(إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا) [البخاری: ۹۳۱، مسلم: ۸۷۵]

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب جمعہ کے روز اس وقت (مسجد میں) آئے کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو وہ دو رکعات ادا کرے اور ان میں تخفیف کرے۔“

۳۔ فرض کی سنتوں کا وقت

فرض نماز کی پہلی سنتوں کا وقت نماز کا وقت شروع ہونے سے لیکر اقامت نماز تک ہوتا ہے، اور فرض نماز کے بعد کی سنتوں کا وقت نماز ختم ہونے سے لیکر اس کا وقت ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ [المغنی لابن قدامہ: ۵۴۴/۲]

۴۔ سنتوں کی قضا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب ظہر کی پہلی چار سنتیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھ لیتے۔

[الترمذی: ۴۲۶، وقال حدیث حسن، وصحہ أحمد شاکر فی تحقیق سنن الترمذی ۲۹۱/۲ ولا رناؤ فی تحقیق جامع لا حول ۶/۲۳]

اور یہ۔ واللہ اعلم۔ ان سنتوں کی اہمیت کی بناء پر تھا، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ زوال شمس کے بعد اور نماز ظہر سے قبل چار رکعات پڑھتے تھے، اور آپ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّهَا مَسَاعَةٌ تَفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ)

ترجمہ: ”یہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا نیک عمل اوپر کو اٹھایا جائے“ [الترمذی: ۴۷۸، وقال: حدیث حسن، وصحہ لا رناؤ فی تحقیق جامع لا حول ۶/۲۴۔ وصحہ لا لبانی]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبد العزیز بن عبد اللہ بن بازؒ سے سوال کیا کہ یہ چار رکعات نماز ظہر کی سنتیں ہیں یا کچھ اور؟ تو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ ظہر کی سنتیں ہی ہیں

اور ہم اس سے پہلے حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کر چکے ہیں، جس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے فجر کی سنتیں نماز فجر کے بعد قضا کیں، اور آپ ﷺ اس پر خاموش رہے۔ [الترمذی: ۴۲۲، ابوداؤد: ۱۲۶۷، ابن ماجہ: ۱۱۵۴۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهُمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ)

ترجمہ: ”جو شخص فجر کی دو رکعات نہ پڑھ سکا، وہ طلوع آفتاب کے بعد انہیں ادا کر لے“۔ [الترمذی: ۴۲۳، ابن حبان: ۴۲۷۲ وغیرہما۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ فجر کی سنتیں نیند کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تھے، اس لئے آپ ﷺ نے انہیں طلوع آفتاب کے بعد قضا کیا۔ [ابن ماجہ: ۱۱۵۵۔ صحیحہ لا لبانی]

اور نبی کریم ﷺ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ جب آپ سفر میں نماز فجر کے وقت سوئے رہ گئے، تو آپ ﷺ نے فجر کی سنتیں بھی قضا کیں، اور انہیں فرض نماز سے پہلے ادا کیا، اس کے بعد آپ ﷺ نے فرض نماز ادا فرمائی، اور یہ سورج کے بلند ہونے کے بعد تھا۔ [مسلم: ۶۸۱]

یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ ظہر کی پہلی چار سنتوں کو ظہر کے بعد، اور فجر کی پہلی دو سنتوں کو نماز فجر کے بعد یا سورج کے بلند ہونے کے بعد قضا کرنا مستحب ہے، اسی طرح فوت ہونے والی کسی بھی نماز کی سنتیں بھی فرض نماز کے ساتھ ہی قضا کی جائیں گی۔

اور میں نے اپنے استاذ امام ابن بازؒ سے سوال کیا کہ کیا فرض نمازوں کی مؤکدہ

سنتیں قضا کی جائیں گی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں کی جائیں گی، سوائے ان سنتوں کے جو فرض نمازوں کے ساتھ فوت ہو جائیں، تو انہیں بھی فرض نمازوں کے ساتھ قضا کرنا ہوگا، اور رہی یہ بات کہ نبی کریم ﷺ نے عصر کے بعد ظہر کی سنتیں قضا کی تھیں، تو یہ آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح وہ سنتیں بھی قضا کی جائیں گی جن کے بارے میں احادیث ثابت ہیں، اور وہ ہیں ظہر کی پہلی چار سنتیں، جنہیں نمازِ ظہر کے بعد قضا کیا جائے گا، اور فجر کی پہلی دو سنتیں، جنہیں نمازِ فجر کے بعد، یا سورج کے بلند ہونے کے بعد قضا کیا جائے گا، اور اسی طرح وہ شخص نمازِ وتر بھی قضا کرے گا جو اسے بھول گیا یا سویا رہا، بشرطیکہ اسے جفت عدد میں قضا کرے، نہ کہ طاق عدد میں، اور اسی بات کا ہمارے استاذ امام ابن بازؒ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک فتویٰ دیتے رہے۔

❶ فرض نماز اور سنتوں کے درمیان مسجد سے نکل کر یا کلام کے

ذریعے فاصلہ کرنا

حضرت السائب بن یزید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد دوسری نماز اس کے ساتھ نہ ملاؤ یہاں تک کہ بات چیت کر لو یا نکل جاؤ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز نہ ملائیں یہاں تک کہ ہم گفتگو کر لیں یا نکل جائیں۔ [مسلم: ۸۸۳]

اور یہ بات نمازِ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ تمام نمازوں کیلئے ہے، کیونکہ راوی نے جو حدیث بیان کی ہے وہ نمازِ جمعہ اور باقی تمام نمازوں کو شامل ہے۔

اور بعض اہل علم نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ تاکہ فرض نماز، نفل نماز کے مشابہ نہ ہو، اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ دو نمازوں کے درمیان فاصلہ نہ کرنا مہلک امر ہے۔ [سبل السلام: ۱۸۲/۳]، جیسا کہ ایک صحابی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز عصر ادا فرمائی، پھر ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا، اسے حضرت عمر بن الخطاب رحمہ اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے: بیٹھ جاؤ، کیونکہ اہل کتاب کو اس بات نے ہلاک کیا تھا کہ ان کی نماز میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا، تب رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ) ”ابن الخطاب رحمہ اللہ نے بہت اچھی بات کہی ہے“۔

[احمدی المسند ۵/۳۶۸ وقال الهیثمی: رواہ احمد و ابو یعلیٰ و رجال احمد رجال الصحیح: مجمع الزوائد ۲/۲۳۳]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ سے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے سنا کہ نفل نماز کو فرض نماز کے ساتھ ملانے سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس کے تابع ہے، چاہے جمعہ کی نماز ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور نماز ہو، اور جب دونوں نمازوں کے درمیان کلام سے، یا مسجد سے نکل کر، یا استغفار کر کے یا کسی بھی ذکر کے ساتھ فاصلہ کر لیا جائے تو یہ وہم دور ہو جاتا ہے۔ [یہ بات انہوں نے بلوغ المرام کی حدیث ۴۸۵ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]

اور امام المصنعیؒ کا کہنا ہے:

”اور علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نفل نماز پڑھنے کیلئے فرض نماز والی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کو اختیار کرنا مستحب ہے، اور افضل یہ ہے کہ وہ نفل نماز گھر میں جا کر ادا کرے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو کم از کم مسجد میں ہی دوسری جگہ کا انتخاب کر کے وہاں سنتیں

وغیرہ پڑھ لے، اس سے اس کے سجدوں کی جگہیں زیادہ ہوں گی، [سبل السلام: ۳/۱۸۳]
 اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 (أَيْعِزُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَلَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي
 الصَّلَاةِ) يَغْنَىٰ فِي السُّبْحَةِ.

ترجمہ: ”کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے، یا
 پیچھے چلا جائے، یا دائیں، یا بائیں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے؟ یعنی نفل نماز.
 [ابوداؤد: ۱۰۰۶۔ صحیحہ للالبانی]

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرض نماز کے بعد نفل کیلئے دوسری جگہ کی طرف منتقل
 ہونا ثابت ہے، چنانچہ وہ جب مکہ مکرمہ میں ہوتے اور نماز جمعہ ادا کرتے تو آگے بڑھ کر
 دو رکعات ادا کرتے، پھر اور آگے بڑھ کر مزید چار رکعات پڑھتے، اور جب مدینہ منورہ
 میں ہوتے تو نماز جمعہ کے بعد مسجد میں نماز نہ پڑھتے، اور اپنے گھر کو واپس لوٹ آتے
 اور وہاں دو رکعات ادا کرتے، اور جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ
ﷺ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ [ابوداؤد: ۱۱۳۰۔ صحیحہ للالبانی]

میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سجدوں کی جگہیں زیادہ ہونی
 چاہئیں، جیسا کہ ہمارے استاذ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے .

❶ فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا أَيْمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)

ترجمہ: ”جب نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں

ہوتی“۔ [مسلم: ۷۱۰]

اور حضرت عبداللہ بن مالک بن نخیسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اقامت کے بعد دو رکعات نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ ﷺ نماز (فجر) سے فارغ ہوئے تو لوگوں میں گھل مل گئے، اسی دوران آپ ﷺ نے اس شخص کو دیکھا تو فرمایا: (الصُّبْحُ أَرْبَعًا؟ الصُّبْحُ أَرْبَعًا؟) ”کیا صبح کی چار رکعات ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعات ہیں؟“ [البخاری: ۶۶۳، مسلم: ۷۱۱]

اور حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اس نے مسجد کے ایک کونے میں دو رکعتیں پڑھیں، پھر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے، جب رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیرا تو فرمایا: (يَا فُلَانُ! يَا أَيُّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَيُّ صَلَاتِكَ وَحَدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟) [مسلم: ۷۱۲]

ترجمہ: ”اے فلان! تم نے دو نمازوں میں سے کوئی نماز کو شمار کیا ہے؟ اس نماز کو شمار کیا ہے جو تم نے اکیلے پڑھی ہے یا اس کو جو تم نے ہمارے ساتھ ادا کیا ہے؟“

اور یہ تمام احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ مسلمان جب اقامت سن لے تو اس کیلئے جائز نہیں کہ وہ نفل نماز شروع کرے، چاہے وہ فرض نمازوں کی سنتیں ہوں، مثلاً نماز ظہر کی سنتیں، یا نماز عصر کی سنتیں، یا نماز فجر کی سنتیں، یا کسی اور نماز کی سنتیں، اور چاہے وہ مسجد میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، اور چاہے اسے (جماعت کے ساتھ) پہلی رکعت کے ملنے کا یقین ہو یا نہ ہو، اور جب اختلاف واقع ہو جائے تو اس وقت حجت و دلیل قرآن و سنت ہوتے ہیں، لہذا جو شخص انہی دو چیزوں کو دلیل بنائے گا وہی

کامیاب ہوگا۔ [شرح مسلم للنووی: ۲۲۹/۵، فتح الباری لابن حجر: ۲/۱۵۰، المغنی لابن قدامة: ۲/۱۱۹، نیل الأوطار للشوکانی: ۲/۲۸۳]

اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ وہ ذہنی طور پر فرض نماز کیلئے تیار ہو جائے اور امام کے ساتھ ہی فرض نماز شروع کرے، کیونکہ اگر وہ نفل نماز میں مشغول ہو جائے گا تو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ اس سے فوت ہو جائے گی، اور فرض نماز کو مکمل کرنے والے بعض امور رہ جائیں گے، اس لئے فرض نماز ہی زیادہ حق رکھتی ہے کہ اسے اچھی طرح سے مکمل کیا جائے، اور دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ تاکہ امام مسجد کی اقتداء کو چھوڑنے کا تصور پیدا نہ ہو، اور امام اور مقتدی کے درمیان اختلاف نظر نہ آئے۔

اور جب کوئی شخص سنتیں یا عام نفل نماز پڑھ رہا ہو، اور اسی دوران اقامت ہو جائے تو کیا وہ نماز توڑ کر جماعت کے ساتھ جا ملے یا اپنی نماز مکمل کر کے پھر جماعت میں مل جائے؟ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اسے نماز توڑ کر جماعت کے ساتھ مل جانا چاہیے، ان کی دلیل نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے:

(إِذَا أَلِمَّتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)

ترجمہ: ”جب نماز کی اقامت ہو جائے تو سوائے فرض نماز کے اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔“ [مسلم: ۷۱۰]

اور جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنی نماز نہ توڑے بلکہ اس میں تخفیف کر کے اسے مکمل کر لے اور پھر جماعت میں مل جائے، ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا

أَعْمَالَكُمْ﴾ [سورة محمد: ۳۳]

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو“

اور یہ لوگ پہلی حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان سے مراد یہ ہے کہ اقامتِ نماز کے بعد کوئی نمازِ سنت یا عام نفل نماز شروع نہیں کی جاسکتی، اور اگر کوئی شخص پہلے سے نفل نماز پڑھ رہا ہو اور اسی دوران اقامت ہو جائے تو وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔

اور بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسے جماعت کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ نماز توڑ دے، اور اگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو تو اپنی نماز مکمل کر لے، لیکن صحیح بات جس پر احادیث دلالت کرتی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نماز توڑ دے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مالک بن حسیۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، اور اس سے زیادہ صریح الفاظ صحیح مسلم میں ہیں کہ جب نماز فجر کی اقامت ہو رہی تھی تو نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا:

(اَتَّصَلَّى الصُّبْحَ اُزْبَعًا) ”کیا تم فجر کی چار رکعات پڑھنا چاہتے ہو؟“

اور یہی بات میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ سے بھی سنی تھی، انہوں نے اسی موقف کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا:

”آیت کریمہ عام ہے اور حدیث خاص ہے، اور خاص عام کے عموم کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے مخالف نہیں ہوتا، جیسا کہ اصول فقہ اور مصطلح الحدیث میں یہ بات معلوم ہے، لیکن اگر اقامتِ نماز اس وقت ہو جب سنت یا نفل نماز پڑھنے والا دوسری رکعت کا رکوع کر چکا ہو یا سجدوں میں ہو، یا التحیات پڑھ رہا ہو تو وہ اگر اپنی نماز مکمل کر لے تو اس میں

کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کی نماز کا بیشتر حصہ ختم ہو چکا تھا، اور اب تھوڑا (ایک رکعت سے بھی کم) حصہ باقی تھا، اور چونکہ اقل الصلاۃ (کم از کم نماز) ایک رکعت ہے، اور اس کی تو ایک رکعت بھی پوری باقی نہ تھی، اس لئے اسے مکمل کر لینا حدیث مذکور کے مخالف نہیں۔“

[مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعہ لابن باز: ۱۱/۳۹۳-۳۹۴، ۱۱/۳۷۰-۳۷۲]

④ فجر کی سنتوں اور وتر کے علاوہ باقی سنتوں کو بحالتِ سفر چھوڑ دینا

سنت ہے

عاصم بن عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، انہوں نے ہمیں نمازِ ظہر کی دو رکعات پڑھائیں، پھر ہم آپ کے ساتھ وہاں چلے گئے جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، آپ بھی بیٹھ گئے اور ہم بھی بیٹھ گئے، اسی دوران ان کی نظر اس جگہ کی طرف گئی جہاں انہوں نے نماز پڑھائی تھی، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں، چنانچہ انہوں نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا: یہ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا: اگر مجھے نفل نماز پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کی نماز پوری پڑھتا (قصر نہ کرتا)، اے میرے بھتیجے! میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا، لیکن آپ ﷺ نے دو رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، پھر میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، لیکن آپ نے بھی دو رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا،

لیکن آپ نے بھی دو رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی سفر کیا، لیکن انہوں نے بھی دو رکعات سے زیادہ نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ۲۱]

ترجمہ: ”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ (کی زندگی) میں بہترین نمونہ ہے۔“
[البخاری: ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، مسلم: ۶۸۹۔ واللفظ لمسلم]

اور جہاں تک سنت فجر اور نماز وتر کا تعلق ہے تو سفر و حضر دونوں حالتوں میں انہیں نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنت فجر کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ انہیں کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ [البخاری: ۱۱۵۹، مسلم: ۷۲۳]

اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کی حالت میں نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز فجر کے وقت سوئے رہ گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا.... پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، تو رسول اللہ ﷺ نے پہلے فجر کی دو سنتیں ادا کیں، پھر فرض نماز پڑھائی، اور اسی طرح کیا جیسا کہ آپ ﷺ ہر روز کیا کرتے تھے۔ [مسلم: ۶۸۱]

اور سنت وتر کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سفر کی حالت میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لیتے تھے، چاہے اس کا رخ کسی طرف ہوتا، آپ رات کی نماز میں اپنے سر سے اشارہ کرتے، ہاں البتہ فرض نمازیں سواری پر نہیں پڑھتے تھے، اور نماز وتر بھی سواری پر ہی پڑھ لیتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ

ﷺ اپنے اونٹ پر نماز وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔

[البخاری: ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۹۵، ۱۰۹۸، ۱۰۵، ۱۱۰۵، مسلم: ۷۰۰]

امام ابن القیمؒ کہتے ہیں:

”نبی کریم ﷺ جس قدر سنت فجر کا خیال کرتے اتنا کسی اور نفل نماز کا نہیں کرتے تھے، اور سب سے زیادہ سنت فجر پر ہی ہمیشگی کرتے، اور آپ ﷺ اسے اور نماز وتر کو سفر نفردنوں حالتوں میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ ﷺ سے یہ منقول نہیں ہے کہ پنے کبھی سفر کے دوران سنت فجر کے علاوہ کسی اور فرض نماز کی سنتوں کو پڑھا ہو۔“

[ادالمعاد: ۱/۳۱۵]

باقی رہی عام نفل نماز تو وہ سفر و حضر میں مشروع ہے، مثلاً نماز چاشت، تہجد وغیرہ، اور طرح سہمی نمازیں بھی سفر و حضر میں مشروع ہیں، مثلاً سنت وضو، سنت طواف، نماز وف اور تحیۃ المسجد وغیرہ۔ [مجموع فتاویٰ ومقالات ابن باز: ۱۱/۳۹۰-۳۹۱]

اور امام نوویؒ کہتے ہیں: ”علماء اس بات پر متفق ہیں کہ سفر میں عام نفل نماز پڑھنا سب ہے“ [شرح صحیح مسلم: ۵/۲۰۵]

دائمی سنتوں میں دوسری قسم نماز وتر ہے

❶ وتر سنت مؤکدہ ہے، اور وتر رات کی نفل نماز کا حصہ ہے، اور اس کی (کم ایک رکعت ہے جس کے ساتھ رات کی نفل نماز کا اختتام ہوتا ہے۔ [المغنی لابن ۵۹۴/۲، مجموع فتاویٰ ومقالات ابن باز: ۱۱/۳۰۹-۳۱۷]

حضرت ابویوبؓ لا انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: (الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ)

ترجمہ: ”نماز وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہذا جو شخص تین وتر پڑھنا چاہے وہ تین پڑھ لے، اور جو شخص ایک وتر پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے“

[ابوداؤد: ۱۳۲۲، الترمذی: ۱۷۱۳، ابن ماجہ: ۱۱۹۰، صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (الْوُتْرُ لَيْسَ بِحُجْمٍ كَصَلَاةِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)

ترجمہ: ”وتر فرض نماز کی طرح ضروری نہیں، بلکہ یہ تو نبی کریم ﷺ کی ایک سنت ہے“ [الترمذی: ۳۵۳، الترمذی: ۱۶۷۷، وغیرہما، صحیحہ لا لبانی]

اور وتر کے واجب نہ ہونے اور اس کے سنت مؤکدہ ہونے کی ایک اور دلیل حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم اس کی آواز تو سنتے تھے لیکن جو کچھ وہ کہتا تھا وہ ہماری سمجھ سے باہر تھا، وہ آیا یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے قریب پہنچ کر اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے جواب دیا:

(الصَّلَاةُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطْلُوعَ شَيْئًا)

”پانچ نمازیں ہی فرض ہیں، الا یہ کہ تم کچھ نفل نماز پڑھو“

اس نے کہا: مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کئے ہیں؟ رسول

اکرم ﷺ نے جواب دیا: (شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطْوُعَ حَيْنًا)

”ماہ رمضان کے روزے ہی فرض ہیں، الا یہ کہ تم کچھ نفلی روزے رکھو“

اس نے کہا: مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی زکاۃ فرض کی ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے اسے زکاۃ کے بارے میں بھی آگاہ کیا، پھر اس نے کہا: کیا اس کے علاوہ بھی کسی چیز کی زکاۃ مجھ پر فرض ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (لا، إِلَّا أَنْ تَطْوُعَ) ”نہیں، الا یہ کہ تم نفلی صدقہ کرو“۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے اسے اسلام کے دیگر احکامات کے بارے میں بتایا، اور جب وہ شخص جانے لگا تو وہ کہہ رہا تھا: (وَالَّذِي أُنْكِرَمَكَ إِلَّا أَنْ تَطْوُعَ حَيْنًا وَلَا أَنْقُصَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ حَيْنًا)

”اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی! میں نہ تو نفل نماز پڑھوں گا اور نہ ہی ان فرائض میں کمی کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کئے ہیں“۔ تب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَلْفَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ أُذْخِلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ)

”یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، یا یہ جنت میں داخل کر دیا گیا اگر اس نے سچ کہا ہے“ [البخاری: ۱۸۹۱، ۴۶، مسلم: ۱۱]

اور اسی طرح اس کی ایک اور دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو آپ ﷺ نے انہیں کچھ ہدایات دیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ (... فَأَعْلِمْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ...) ”انہیں آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔“

[البخاری: ۴۳۴۷، مسلم: ۱۹]

اور یہ دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ نماز وتر واجب نہیں ہے، تاہم سنت مؤکدہ ضرور ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے اسے اور اسی طرح سنت فجر کو سفر و حضر میں کبھی نہیں چھوڑا۔ [زاد المعاد: ۱/۳۱۵، المغنی لابن قدامہ: ۳/۱۹۶، ۲/۲۴۰]

اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب یہ ہے کہ نماز وتر واجب ہے، اور ان کی دلیل وہ احادیث ہیں جو بظاہر اس کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں، لیکن ہم نے جو دلائل ذکر کئے ہیں ان کی بناء پر وجوب کی دلالت ختم ہو جاتی ہے۔

[نیل الاوطار: ۲/۲۰۵-۲۰۶]

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا مذہب یہ ہے کہ وتر اس شخص پر واجب ہے جو رات کو تہجد پڑھتا ہو، اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ اسے مطلقاً واجب قرار دیتے ہیں ان میں سے بعض کا مذہب بھی یہی ہے کہ یہ صرف تہجد پڑھنے والے شخص پر واجب ہوتا ہے۔

[الاختیارات الفقہیہ للشیخ الاسلام ابن تیمیہؒ: ص ۹۶]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث: ۱۳۹۳ اور الروض المربع (۲/۱۸۳) کی شرح کے دوران کئی مرتبہ سنا کہ نماز وتر واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ [نیز دیکھئے: المغنی لابن قدامہ: ۲/۵۹۱، ۵۹۵]

۲ وتر کی فضیلت:

وتر کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت خارجہ بن حذافۃ العدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَمَّاكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ،

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زائد عطا کی ہے، جو کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، اور وہ ہے نماز وتر، اور اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے عشاء اور فجر کے مابین رکھ دیا ہے۔“ [ابوداؤد: ۱۴۱۸، الترمذی: ۳۵۲، ابن ماجہ: ۱۱۶۸، والحاکم: ۳۰۶/۱، صحیح ووافقہ الذہبی]

اور اس کی فضیلت اور اس کے سنت ہونے کی ایک اور دلیل حضرت علی بن ابی
البخترؓ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز وتر ادا کی،
فرمایا: (يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ! اؤْتِرُوا، لِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتَرِيحُ الْوُتْرِ)
ترجمہ: ”اے قرآن والو! وتر پڑھا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی وتر ہے اور وہ وتر کو پسند
رہتا ہے۔“ [التسائی: ۶۷، الترمذی: ۴۵۳، ابوداؤد: ۱۳۱۶، ابن ماجہ: ۱۱۶۹۔ صحیح
البیہقی]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باڑ سے اس حدیث کی شرح کے دوران سنا کہ ”یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگرچہ نماز وتر تمام لوگوں کیلئے شروع ہے، تاہم اہل علم کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر (دوسرے لوگوں سے زیادہ) اس کا اہتمام کریں تاکہ ان کی اقتداء کی جائے، اور نماز وتر کی کم از کم ایک رکعت ہے، جو کہ عشاء اور فجر کے درمیان پڑھی جاسکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ وتر ہے، اور وہ وتر کو اور اسی طرح ہر اس چیز کو پسند فرماتا ہے جو اس کی صفات کے موافق ہو، مثلاً وہ صبور ہے، چنانچہ وہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بخلاف عزت و عظمت کے، (کیونکہ عزت و عظمت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کیلئے ہی ہے)، لہذا بندوں کو اللہ کی صفات میں سے وہ صفات

اختیار کرنی چاہئیں جو بندے کے شایانِ شان ہوں، مثلاً سخاوت، اور احسان وغیرہ،
(اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہی شایانِ شان ہیں وہ اسی کیلئے خاص کرنی چاہئیں)۔
[یہ بات انہوں نے بلوغ المرام کی حدیث ۴۰۵ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]
۲ نماز وتر کا وقت:

① نمازِ عشاء کے بعد طلوع فجر تک پوری رات نماز وتر کا وقت ہے، جیسا کہ حضرت
عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ابولصرہ الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ زَادَكُمْ صَلَاةَ وَهِيَ الْوُتْرُ، فَصَلُّوْهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز زیادہ عطا کی ہے اور وہ ہے نماز وتر،
لہذا تم اسے نمازِ عشاء اور نمازِ فجر کے درمیان کسی وقت پڑھ لیا کرو“ [احمد فی المسند:
۶/۳۹۷، ۲/۱۸۰، ۲۰۶، ۲۰۸۔ صحیحہ لألبانی فی إرواء الغلیل: ۲/۲۵۸]

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وتر کا وقت نمازِ عشاء اور نمازِ فجر کے درمیان ہے،
چاہے کوئی شخص نمازِ عشاء اپنے وقت پر ادا کرے یا اسے مغرب کے ساتھ جمع تقدیم
کر کے پڑھے، کیونکہ وتر کا وقت نمازِ عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہی
موقف ہے ہمارے استاذ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ کا، جو کہ انہوں نے الروض
المربع کی شرح کرتے ہوئے بیان کیا۔

[المغنی لابن قدامہ: ۲/۵۹۵، حاشیہ الروض المربع: ۲/۱۸۴، الشرح لمصحح لابن
عثیمین: ۱۵/۳]

اور مذکورہ وقت جہاں نبی کریم ﷺ کے قول سے ثابت ہے وہاں آپ ﷺ کے فعل سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نماز عشاء سے (جسے لوگ العتمہ - رات کی نماز - کہتے ہیں) فارغ ہو کر فجر کی نماز تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے، اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، اور فجر بالکل واضح ہو جاتی، اور مؤذن آپ کے پاس آ جاتا تو آپ ﷺ کھڑے ہو جاتے اور ہلکی سی دو رکعات ادا کرتے، پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹ جاتے، (اور بدستور لیٹے رہتے) یہاں تک کہ مؤذن اقامت کیلئے آپ کے پاس آ جاتا۔ [مسلم: ۷۳۶]

اور نبی کریم ﷺ نے نماز وتر کا آخری وقت بھی مقرر فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَوْسَرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا) اور دوسری روایت میں فرمایا: (أَوْسَرُوا قَبْلَ الصُّبْحِ) ترجمہ: ”صبح ہونے سے پہلے نماز وتر پڑھ لیا کرو“ [مسلم: ۷۵۴]

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوُتْرِ)

”صبح ہونے سے پہلے وتر جلدی پڑھ لیا کرو“ [مسلم: ۷۵۰]

اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طلوع فجر سے سبقت لے جانا یعنی نماز وتر کا اس سے پہلے پڑھنا مشروع ہے، اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تَوْبَرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)

ترجمہ: ”رات کی نفل نماز دو دو رکعات ہے، لہذا تم میں سے کسی شخص کو جب صبح کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ادا کر لے جو اس کی نماز کو وتر (طاق) بنا دے گی۔“ [البخاری: ۹۹۰، مسلم: ۷۴۹]

اور حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ أَذْرَكَ الصُّبْحَ فَلَمْ يُؤْتِرْ، فَلَا يُؤْتِرُهُ)

”جس شخص کی صبح اس حالت میں ہوئی کہ اس نے نماز وتر نہیں پڑھی، تو اب اس کی نماز وتر نہیں“ [ابن حبان۔ الإحسان: ۱۶۸/۶، ابن خزیمہ: ۱۴۸/۲، ۱۰۹۲، والحاکم: ۱/۱۰۳۱ صحیحہ دوافتہ الذہبی، صحیحہ اللبانی فی تحقیق ابن خزیمہ]

اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ خَفَبَ كُلُّ صَلَاةٍ اللَّيْلِ وَالْوُتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)

ترجمہ: ”جب فجر طلوع ہو جائے تو رات کی ساری نماز کا اور اسی طرح نماز وتر کا وقت چلا جاتا ہے، لہذا تم طلوع فجر سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔“ [الترمذی: ۳۶۹۔ صحیحہ اللبانی]

امام ترمذیؒ کا کہنا ہے کہ بیشتر اہل علم کا جن میں امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام اسحاق شامل ہیں یہی قول ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد نماز وتر کا پڑھنا درست نہیں۔ [سنن الترمذی: ۳۳۳/۲]

اور اس کی مزید وضاحت نبی کریم ﷺ کے عمل سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی آخری عمر میں نماز وتر سحری کے وقت ہی پڑھتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان

فرماتی ہیں کہ رات کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں رسول اللہ ﷺ نے نماز وتر نہ پڑھی ہو، رات کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھتے تھے، درمیانے حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی، اور آخر کار آپ ﷺ سحری کے وقت ہی اسے ادا فرماتے تھے۔

[البخاری: ۹۹۶، مسلم: ۷۳۵]

مذکورہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر یہ بات کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ وتر کا وقت نماز عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر صادق کے طلوع ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کے قول کے بعد کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں۔

اور ان احادیث میں بعض سلف صالحین رحمہم اللہ پر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد بھی نماز وتر پڑھی جاسکتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس، حضرت عبادۃ بن صامت، حضرت القاسم بن محمد، حضرت عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان حضرات سے طلوع فجر سے پہلے وتر فوت ہو جاتا تو وہ اسے طلوع فجر کے بعد پڑھ لیتے، اس کے بعد نماز فجر ادا کر لیتے۔ [الموطأ: ۱۲۶/۲، المصنف لابن ابی شیبہ: ۲۸۶/۲، مسند احمد: ۶/۲۳۲، ۲۳۳، إرواء الغلیل: ۱۵۵/۲، الشرح لمصح لا ابن عثیمین: ۱۷/۳، مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۳۰۵۔

[۳۰۸]

امام مالکؒ کا کہنا ہے کہ طلوع فجر کے بعد صرف وہی شخص وتر پڑھ سکتا ہے جو وتر سے سویا رہ گیا، ورنہ کسی شخص کیلئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر وتر کو مؤخر کرے اور اسے طلوع فجر کے بعد ادا کرے۔ [الموطأ: ۱۲۷/۲، جامع لا حول: ۶/۵۹-۶۱]

اور علامہ ابن عثیمینؒ کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد وتر نہیں ہے، اور جو بات بعض

سلف سے مروی ہے کہ وہ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان وتر پڑھ لیتے تھے، تو یہ سنت کے خلاف ہے، اور رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کا قول قابلِ حجت نہیں ہے۔
[الشرح المجمع: ۱۶/۳]

⑤ جس شخص کو رات کے آخری حصہ میں بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو اس کیلئے سونے سے پہلے وتر پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
(أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ [لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ] ، صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَهَامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتِي الضُّحَى ، وَأَنْ أُؤْتَرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)
”مجھے میرے خلیل حضرت محمد ﷺ نے تین باتوں کا تاکید حکم دیا ہے، جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، اور وہ ہیں ہر مہینے میں تین دن کے روزے، چاشت کی دو رکعات، اور یہ کہ میں نماز وتر سونے سے پہلے پڑھوں۔“
[البخاری: ۱۹۸۱، ۱۱۷۸، مسلم: ۷۲۱]

اور بعینہ یہی وصیت رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائی۔
[مسلم: ۷۲۲]

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا مستحب ہے، اور یہ اس شخص کے حق میں ہے جسے سونے کے بعد بیدار ہونے کا یقین نہ ہو، اور اسی طرح وہ شخص جو بیدار ہونے کے بعد پھر سو جاتا ہو اس کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ جب رات کو دوسری مرتبہ سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لے۔ [فتح الباری: ۵۷/۳]

اور اس سے معلوم ہوا کہ وتر کا معاملہ لوگوں کے احوال اور ان کی طاقت پر موقوف

ہے، اور اس کی ایک اور دلیل حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم وتر کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: عشاء کے بعد رات کے ابتدائی حصہ میں، پھر آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا: تم کس وقت پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا: رات کے آخری حصے میں، تب نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِاللَّوْطِيِّ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقَوَّةِ)

ترجمہ: ”اے ابو بکر! تم نے مضبوطی کو پکڑا ہے، اور اے عمر! تم نے قوت کو پکڑا ہے“
[ابن ماجہ: ۱۲۰۲۔ وابوداؤد: ۴۳۳۴ من حدیث ابی قتادہ۔ صحیحہ لا لبانی]

یعنی رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عمل کو مستحسن اور مضبوط قرار دیا کیونکہ وہ احتیاط سے کام لیتے اور نیند کی وجہ سے وتر کے فوت ہونے کے اندیشے کے پیش نظر اسے سونے سے پہلے پڑھ لیتے، اور چونکہ نیند کو قربان کر کے نماز کیلئے بیدار ہونا ایک مشکل امر ہے، اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ ﷺ نے یوں داد تحسین دی کہ تم نے طاقت، ہمت اور پختہ ارادے کا ثبوت دیا ہے۔

۵) جس شخص کو بیدار ہونے کا یقین ہو اس کیلئے وتر رات کے آخری حصہ میں پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُؤَيِّرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُؤَيِّرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنْ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةً، وَذَلِكَ الْفَضْلُ)

ترجمہ: ”جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ

رات کے ابتدائی حصہ ہی میں وتر پڑھ لے، اور جورات کے آخری حصہ میں اٹھنے کا خواہشمند ہو تو وہ آخری حصہ ہی میں پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ افضل ہے۔

اور دوسری روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں:

(... وَمَنْ وَلَّى بِقِيَامِ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ، فَإِنْ قِرَاءَةً آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةً، وَذَلِكَ الْفَضْلُ)

ترجمہ: ”اور جس شخص کو یقین ہو کہ وہ رات کو بیدار ہو جائے گا تو وہ رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصہ کی قراءت سننے کیلئے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہتر ہے۔“ [مسلم: ۷۵۵]

امام نوویؒ کہتے ہیں: حدیث مذکور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس شخص کو بیدار ہونے کا یقین ہو اس کیلئے آخر شب میں وتر کی ادائیگی افضل ہے، اور جسے یہ یقین نہ ہو اس کیلئے وتر کو نیند پر مقدم کرنا بہتر ہے، اور یہی درست مسلک ہے، اور جن احادیث میں سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے وہ اس شخص کیلئے ہیں جس کو بیدار ہونے کا اندیشہ ہو۔ [شرح صحیح مسلم: ۶/۲۸۱]

اور آخر شب میں وتر پڑھنے کی فضیلت ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے جسے حضرت ابو ہریرہؓ نے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرمایا:

(يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَنْفُ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يُسْأَلُ

فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يُسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) (وہی روایہ لمسلم: (فَلَا يَزَالُ
كَذَلِكَ حَتَّى يُضَيَّءَ الْفَجْرُ)

ترجمہ: ”ہمارا رب جو بابرکت اور بلند و بالا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کر دوں؟“ اور مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ”پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔“ [البخاری: ۱۱۳۵، ۶۳۲۱، ۴۹۴، مسلم: ۷۵۸]

❶ نماز وتر کی اقسام اور اس کی رکعات کی تعداد

وتر کی متعدد رکعات و کیفیات ثابت ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں:

① گیارہ رکعات، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام، اور آخر میں ایک رکعت وتر

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ان میں ایک رکعت کے ساتھ آپ ﷺ وتر ادا کرتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نماز عشاء سے (جسے لوگ العتمہ۔ رات کی نماز۔ کہتے ہیں) فارغ ہو کر فجر کی نماز تک گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے، اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے..... [مسلم: ۷۳۶]

② تیرہ رکعات، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام، اور آخر میں ایک رکعت وتر، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی بیان کرتے ہیں کہ

”رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے“۔ [مسلم: ۷۶۳]

۴) تیرہ رکعات، ہر دو رکعتوں کے بعد سلام، اور آخری پانچ رکعتیں ایک ہی تشہد

کے ساتھ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت تیرہ رکعات پڑھتے تھے، ان میں سے پانچ رکعات کے ساتھ آپ ﷺ وتر پڑھتے، اور ان میں صرف آخری رکعت میں تشہد کیلئے بیٹھتے [مسلم: ۷۳۷]

④ نور رکعات، ان میں تشہد صرف آٹھویں رکعت کے آخر میں، پھر ایک رکعت وتر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ”..... ہم رسول اللہ ﷺ کیلئے مسواک، اور وضو کا پانی تیار کرتیں، پھر اللہ تعالیٰ رات کے جس حصے میں چاہتا آپ ﷺ کو اٹھا دیتا، چنانچہ آپ ﷺ مسواک اور وضو کرتے، اور پھر نور رکعات ادا فرماتے، ان میں سے صرف آٹھویں رکعت کے آخر میں تشہد کیلئے بیٹھتے، پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے، اور اس سے دعا مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر نویں رکعت پڑھتے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے جسے ہم سن رہے ہوتے.....“ [مسلم: ۷۳۶]

⑤ سات رکعات، ان میں تشہد صرف آخری رکعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ”..... پھر جب نبی کریم ﷺ عمر رسیدہ ہو گئے، اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ سات رکعات وتر پڑھتے تھے...“ [مسلم: ۷۳۶]

اور ایک روایت میں ہے کہ ”آپ ﷺ صرف آخری رکعت میں تشہد کیلئے بیٹھتے“ [التسائی: ۱۷۸، ابن ماجہ: ۱۱۹۲، صحیحہ لألبانی]

⑥ سات رکعات، اور ان میں چھٹی رکعت میں تشہد

[illegible]

یہ ہے سزا کا ٹوکہ اور سزا کا پیغام، ”یہ ہے سزا“ ⑤

[77: لہذا] اور یہ ہے کہ تیرے بچاؤ کے لیے

استغفر اللہ یہ بے گناہ ہے، اور اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو،

[illegible][illegible][illegible]

() اَحِبُّوا النَّاسَ كَمَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ ، وَمَنْ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ رَبُّكُمْ ، اَحَبَّ اِلَيْكُمْ النَّاسَ .

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَمْ يَلِدْ وَلَدًا، إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ أَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ (الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ):

وَأَمَّا بَعْدُ فَيَعْلَمُ مَا يُفْعَلُ ۚ وَبَارِكُ لَكَ اللَّهُ يَا هَامُوشَ

۷) اگرچہ کہ ان میں تشہد و آفرین کے لئے ایک ہی جگہ ہے

[۱۵۴/۲: ص ۳۰، ج ۱، خبیرا]

[illegible]

اور، اے کر کے، اور ان کے ساتھ، غرض، چھوٹے چھوٹے پتھر تیرا کر کے، اور ان کے ساتھ،

ہاں، یہ تمام باتیں درست ہیں، اور مجھے ہر ایک سے اس کے ساتھ ساتھ شہرِ منجھو،

الحمد لله الذي جعل القرآن الكريم من أجل ما فيه من النعم والبركات،

[illegible]

[۳۸۲/۲: اسنادہ قوی]

اور یہ عمل خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ثابت ہے، چنانچہ ان کے شاگرد حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز وتر میں دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیتے، یہاں تک کہ بعض اوقات سلام پھیرنے کے بعد اپنے کسی کام کا بھی حکم دیتے، پھر ایک رکعت الگ پڑھتے [بخاری: ۹۹۱، الموطأ: ۱/۱۲۵] اور یہ موقوف اثر مرفوع حدیث کی تائید کر رہا ہے۔

اور شیخ البانیؒ نے اس کی تائید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بھی ذکر کی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ دو رکعات پڑھ کر گفتگو فرماتے، پھر ایک رکعت وتر ادا کرتے۔ [شیخ البانیؒ نے اس کی نسبت ابن ابی شیبہ کی طرف کرتے ہوئے کہا ہے کہ: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ إرواء الغلیل: ۲/۱۵۰]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبداللہ بن بازؒ سے نماز وتر کی اس کیفیت کے بارے میں سنا تھا کہ جو شخص تین رکعات وتر پڑھے اس کیلئے بہتر یہی ہے کہ وہ دو رکعات کے بعد سلام پھیر دے اور پھر ایک رکعت الگ پڑھے۔ [یہ بات انہوں نے مورخہ ۱۵/۱۱/۱۳۱۹ھ کو الاروض المربع ۲/۱۸۷ کی شرح کرتے ہوئے بیان کی]

① تین رکعات، ایک ہی تشہد کے ساتھ

اس کی دلیل حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں: (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِيَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ) ”اور جو شخص تین وتر پڑھنا چاہے وہ تین پڑھے“

[ابوداؤد: ۱۳۲۲، الترمذی: ۱۴۱۳، ابن ماجہ: ۱۱۹۰۔ صحیح ابی البانی]

اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز وتر کی پہلی رکعت میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے تھے، اور آپ صرف آخری رکعت میں سلام پھیرتے، اور اس کے بعد یہ دعائیں بار پڑھتے: (مُبْحَنَ الْمَلِكِ الْقُلُوبِ).

[التسائی: ۱۷۰-۱۷۱ صحیح لا لبانی، وانظر: نیل لاوطار: ۲/۲۱۱، فتح الباری: ۲/۴۸۱]
 اور نبی کریم ﷺ تینوں رکعات ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھتے، کیونکہ اگر اس میں دو تشہد ہوں تو اس طرح نماز وتر کی نماز مغرب سے مشابہت لازم آتی ہے اور اس سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ [الشرح لمصح لابن عثیمین: ۱۲/۴]
 جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 (لَا تُؤَيِّرُوا بِفَلَائِثٍ، أَوْ يُؤَيِّرُوا بِخُمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ)

ترجمہ: ”تم تین رکعات نماز وتر نہ پڑھو، بلکہ پانچ یا سات رکعات پڑھو، اور اسے مغرب کے ساتھ تشبیہ نہ دو“ [ابن حبان: ۲۴۲۹، الدارقطنی: ۲/۲۴۳، البیہقی: ۳/۳۱، صحیح الحاکم ووافقه الذہبی، وقال الحافظ فی الفتح: ۲/۴۸۱: إسناده علی شرط الشیخین]

اور حافظ ابن حجرؒ نے تین وتروں کے جواز والی احادیث اور منع والی احادیث کے درمیان تطبیق یوں دی ہے کہ جواز والی احادیث اس بات پر محمول کی جائیں گی کہ تینوں رکعات ایک ہی تشہد کے ساتھ پڑھی جائیں، اور منع والی احادیث اس بات پر محمول کی جائیں گی کہ انہیں دو تشہد کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ اس سے اس کی مغرب

کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ [فتح الباری: ۲/۴۸۱، نیل الأوطار: ۲/۲۱۴]
 اور تین وتروں کے جواز کی ایک اور دلیل حضرت القاسمؒ کی روایت ہے، وہ حضرت
 عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَقْصِي مَقْصِي، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً
 وَاحِدَةً تُؤَيِّرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ)

ترجمہ: ”رات کی نفل نماز دو دو رکعات ہے، لہذا جب تم نماز ختم کرنا چاہو تو ایک
 رکعت ادا کر لو جو تمہاری نماز کو وتر (طاق) بنا دے گی“

یہ حدیث ذکر کر کے حضرت القاسمؒ کہتے ہیں: ہم نے سن شعور سے اب تک بہت
 سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے جو تین وتر پڑھتے تھے، اور نماز وتر کا معاملہ وسعت
 رکھتا ہے، اس لئے مجھے امید ہے کہ ثابت شدہ کیفیات میں سے جس کیفیت کے ساتھ
 اسے ادا کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ [البخاری: ۹۹۳، مسلم: ۷۴۹]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن عبد اللہ بن بازؒ سے الروض المربع ۲/۱۸۸
 کی شرح کے دوران سنا تھا کہ نمازی جب تین وتر ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھے تو اسے
 اس طرح نہ پڑھے جیسا کہ مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ دوسری رکعت کے اختتام
 پر تشهد کیلئے نہ بیٹھے اور آخری رکعت کے اختتام پر ایک ہی تشهد کے ساتھ پڑھے۔

⑩ ایک رکعت، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ)

”نماز وتر رات کے آخری حصے میں ایک ہی رکعت ہے۔“ [مسلم: ۷۵۲]
 اور حضرت ابو بکرؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وتر کے متعلق

پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ ارشاد سنا تھا کہ (رُكْعَةٌ مِنَ آخِرِ اللَّيْلِ) ”نماز وترات کے آخری حصے میں ایک ہی رکعت ہے“۔ پھر میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ [مسلم: ۷۵۳]

اور امام نوویؒ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نماز وتر کی ایک ہی رکعت پڑھنا درست ہے، اور اسے رات کے آخری حصے میں پڑھنا مستحب ہے۔ [شرح صحیح مسلم: ۶/۲۷۷]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باڑ سے الروض المربع: ۲/۱۸۵ کی شرح کے دوران یہ سنا تھا کہ ”نماز وتر ایک رکعت سے زیادہ پڑھی جائے تو وہ افضل ہے، اور اگر وہ صرف ایک ہی رکعت پڑھے تو اس میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے“۔

نیز ایک رکعت کے جواز پر ایک اور دلیل حضرت ابوالیوب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(الْوُتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِعَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ) ترجمہ: ”نماز وتر ہر مسلمان پر حق ہے، لہذا جو شخص پانچ وتر پڑھنا چاہے وہ پانچ پڑھ لے، اور جو شخص تین وتر پڑھنا چاہے وہ تین پڑھ لے، اور جو شخص ایک وتر پڑھنا چاہے وہ ایک پڑھ لے“ [ابوداؤد: ۱۴۲۲، الترمذی: ۱۷۱۲، ابن ماجہ: ۱۱۹۰۔ صحیحہ لا لبانی]

۵ نماز وتر میں قراءت

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز وتر میں ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور ﴿قُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ ایک ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ [الترمذی: ۳۶۲، التسانی: ۷۰۲، ابن ماجہ: ۱۱۷۲۔ صحیحہ الألبانی]

امام ترمذیؒ یہ حدیث روایت کر کے کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان سورتوں میں سے ایک ایک سورت ہر رکعت میں پڑھتے تھے۔ [الترمذی: ۳۲۶/۲]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ نبی کریم ﷺ نماز وتر میں کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ آپ ﷺ پہلی رکعت میں ﴿مَسْجِدُ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ اور معوذتین پڑھتے تھے۔

[الترمذی: ۳۶۳، ابوداؤد: ۱۳۲۳، ابن ماجہ: ۱۱۷۳۔ صحیحہ الألبانی، اور بہت سارے اہل علم نے اسے ضعیف کہا ہے: نیل الأوطار: ۲/۲۱۱، ۲۱۲۔ ورواہ الحاکم: ۱/۳۰۵، ایضاً صحیحہ ووافقة الذہبی، صحیحہ الأرنؤط فی جامع لأصول: ۵۲/۶، وقال محقق سبل السلام: ۵۳/۳: وقال الحافظ ابن حجر فی نتائج الأفكار: ۵۱۳/۱: وهو حديث حسن]

اور میں نے اپنے استاذ امام عبدالعزیز بن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث نمبر ۴۰۹ کی شرح کے دوران سنا کہ (زیادة المعوذتين ضعيفة والمحفوظ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ولكن لو صح حديث عائشة هذا فتارة فتارة)

”اس حدیث میں معوذتین کا اضافہ ضعیف ہے اور محفوظ روایت میں صرف ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کا ذکر ہے، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحیح بھی ہو تو کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ لی جائے اور کبھی اس کے ساتھ معوذتین کو بھی پڑھ لیا جائے۔“

① قنوت وتر

نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا مشروع ہے، جیسا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے قنوت وتر کیلئے یہ کلمات سکھائے:

(اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَالِمِيْ فِيمَنْ عَالِمَتْ ، وَتَوَلَّيْنِيْ فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا اَعْطَيْتَ ، وَفِيْ حَرَمٍ مَا قَضَيْتَ ، لِاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ ، وَاِنَّهُ لَا يَبْدُلُ مِنْ وَاَلَيْتَ ، [وَلَا يَعْزُ مِنْ عَادَيْتَ] ، [مُبْعَاثِكَ] تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ)

ترجمہ: ”اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت اور تندرستی دی ہے، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے تمام امور کا تو ذمہ دار ہے، اور تو نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں برکت دے، اور تو نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما، کیونکہ تو ہی ہے فیصلہ کرنے والا، اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا، اور جسے تو دوست بنا لے وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جس سے تو دشمنی کر لے اسے عزت نہیں مل سکتی، تو پاک ہے، بابرکت ہے اور ہمارے رب! تو بلند و بالا ہے“

[احمد: ۱/۱۹۹، ابوداؤد: ۱۳۲۵، الترمذی: ۳۶۳، وابن ماجہ: ۱۱۷۹، مسند
اللبانی فی إرواء الغلیل ۲/۱۷۲: ۳۳۹۔ اس دعا کے الفاظ [وَلَا يَعْزُ مِنْ عَادَيْتَ] المعجم
الكبير للطبرانی: ۳/۷۳: ۷۰۱، ۷۰۳ اور السنن الكبرى للبيهقي ۲/۲۰۹ میں مروی
ہیں، اور حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبير: ۱/۲۳۹ : ۳۷۱ میں کہا ہے کہ یہ الفاظ حدیث میں
ثابت اور متصل ہیں، اور انہوں نے امام نوویؒ پر تردید کی ہے جو کہ اس کے ضعیف ہونے کے قائل

ہیں۔ نیز دیکھیے: نیل الاوطار: ۲/۲۲۳، إرواء الغلیل: ۲/۱۷۲ اور [مسحاک] کے الفاظ سنن الترمذی: ۴۶۳ میں موجود ہیں]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی نماز وتر کے آخر میں یہ الفاظ پڑھتے تھے: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ، وَبِمُعَافَاةِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری عافیت کی پناہ کا طلبگار ہوں، اور تیرے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، میں اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ خود تو نے اپنی تعریف کی ہے“

[احمد: ۱/۹۶، الترمذی: ۱۳۲۷، ابوداؤد: ۱۷۷۷، الترمذی: ۳۵۶۶، ابن ماجہ: ۹/۱۱۷۷، صحیح ابی یوسف: ۲/۱۷۵، ابی داؤد: ۴۳۰]

اور دعا کے آخر میں (وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) کا پڑھنا بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ [إرواء الغلیل: ۲/۱۷۷]

④ دعائے قنوت رکوع سے پہلے اور اس کے بعد پڑھی جاسکتی ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے دونوں طرح ثابت ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رکوع کے بعد پڑھی جائے، کیونکہ زیادہ تر احادیث میں اسی کا ذکر ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جب قنوت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا رکوع کے بعد؟ تو انہوں نے جواب دیا: رکوع سے پہلے.... پھر

انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے رکوع کے بعد تو صرف بنی سلیم کے بعض قبائل کے خلاف ایک ماہ تک بددعا کی تھی۔ [بخاری: ۱۰۰۲، مسلم: ۶۷۷]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب فجر کی نماز میں قراءت سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے اور پھر (سمع اللہ لمن حمدہ) کہتے ہوئے سر اٹھاتے تو (ربنا ولك الحمد) کہتے، پھر حالت قیام میں ہی یوں دعا فرماتے: (اللَّهُمَّ اسْجِ الْوَلَدَيْنِ الْوَلَدَيْنِ....) ”اے اللہ! ولید بن ولید کو نجات دے۔“ [مسلم: ۶۷۵]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل ایک ماہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں (سمع اللہ لمن حمدہ) کہتے تو بنی سلیم کے قبائل (رعل، ذکوان، عصیہ) پر بددعا کرتے، اور جو لوگ آپ ﷺ کے پیچھے ہوتے وہ آمین کہتے۔ [ابوداؤد: ۱۴۴۳، والحاکم: ۱/۲۲۵۔ شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح سنن ابی داؤد میں حسن قرار دیا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے، إرواء الغلیل: ۱۶۴/۲]

اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز وتر میں رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے۔ [ابوداؤد: ۱۴۲۷، ابن ماجہ: ۱۱۸۳۔ صحیحہ لا لبانی] اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جب نماز فجر میں قنوت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: ہم رکوع سے پہلے بھی قنوت پڑھتے تھے اور اس کے بعد بھی۔ [ابن ماجہ: ۱۱۸۳۔ صحیحہ لا لبانی]

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کا کہنا ہے کہ ”قنوت کے مسئلہ میں بہت سارے لوگ دو انتہاؤں کو پہنچ گئے ہیں، اور کئی لوگوں نے اعتدال کی راہ اختیار کی ہے، چنانچہ ان میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ قنوت رکوع سے پہلے ہی پڑھنی چاہئے، اور بعض اس بات کے قائل ہیں کہ قنوت رکوع کے بعد ہی پڑھی جائے، لیکن فقہاء اہل حدیث (جیسے امام احمدؒ وغیرہ) دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ دونوں کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہیں، ہاں البتہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ زیادہ تر روایات اسی بارے میں وارد ہیں“ [الفتاویٰ: ۱۰۰/۲۳]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن بازؒ سے مورخہ ۱۳۱۹ھ کو الروض المربع: ۲/۱۸۹ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ قنوت آخری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے قنوت نازلہ کا رکوع کے بعد پڑھنا ثابت ہے، اور رکوع سے پہلے کا ذکر بھی آیا ہے، لہذا اس مسئلے میں وسعت موجود ہے، ہاں البتہ زیادہ صحیح اور افضل رکوع کے بعد ہی ہے، کیونکہ احادیث میں یہی غالب ہے، اور ابن قدامہؒ نے المغنی میں ذکر کیا ہے کہ چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم سے بھی یہی بات مروی ہے، اور امام احمدؒ کے بارے میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی رکوع کے بعد قنوت پڑھنے کے قائل ہیں، اور ان کے نزدیک رکوع سے پہلے بھی جائز ہے۔

[المغنی: ۵۸۱/۲، زاد المعاد: ۲۸۲/۱، فتح الباری: ۲/۳۹۱]

یاد رہے کہ وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے، بعض کے نزدیک پورا سال قنوت پڑھنا مسنون ہے، اور بعض کے نزدیک رمضان المبارک کے آخری پندرہ دنوں میں پڑھنا سنت ہے، اور بعض قنوت نہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اور امام احمدؒ کے اکثر

شاگردوں نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کہتے ہیں:

”نماز وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا جائز ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض نے سرے سے قنوت پڑھی ہی نہیں، اور بعض نے رمضان المبارک کے آخری پندرہ دنوں میں پڑھی، اور بعض نے پورا سال پڑھی، اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرامؒ نے بھی اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، چنانچہ مذکورہ تین آراء میں سے پہلی رائے کو امام مالکؒ نے، دوسری کو امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ نے، اور تیسری کو امام ابو حنیفہؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ نے اختیار کیا ہے، اور یہ تینوں آراء جائز ہیں، کوئی شخص ان میں سے جس رائے پر عمل کر لے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔“

[الفتاویٰ: ۹۹/۲۳، نیز دیکھیے: المغنی لابن قدامہ: ۵۸۰/۲، شرح صحیح مسلم للنووی:

۱۸۳/۵، نیل الأوطار للشوکانی: ۲۲۶/۲]

❶ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا اور مقتدیوں کا آمین کہنا

حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَعِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ أَنْ يَرْذُوهَا صِفْرًا)

ترجمہ: ”بے شک تمہارا رب‘ جو کہ بابرکت اور بلند بالا ہے‘ حیاء اور کرم والا ہے، اور جب اس کا کوئی بندہ اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ انہیں خالی لوٹا دے۔“ [ابوداؤد: ۱۳۸۸، الترمذی: ۳۵۵۶، ابن ماجہ: ۳۸۶۵، والبیہقی فی شرح السنہ:

۱۸۵/۵۔ صحیحہ لابن ابی

یہ حدیث عام ہے اور اس میں دعائے قنوت بھی شامل ہے۔
اور یہ عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے، چنانچہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، تو انہوں نے رکوع کے بعد قنوت پڑھی اور اس میں ہاتھ اٹھائے اور دعا بلند آواز سے مانگی۔

[البیہقی ۲/۲۱۲۔ وقال: وهذا عن عمر رضی اللہ عنہ صحیح]

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے شہید ہونے والے قراء کا قصہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ہر دن فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر قاتلوں کے خلاف بددعا کرتے تھے۔ [البیہقی ۲/۲۱۱۔ وهو حدیث صحیح]
اور امام بیہقیؒ نے ذکر کیا ہے کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قنوت میں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ [السنن الکبریٰ ۲/۲۱۱، نیز دیکھئے: المغنی لابن قدامہ ۲/۵۸۴، شرح صحیح مسلم ۵/۸۳، الشرح المصحح ۴/۲۶]

اور جہاں تک مقتدیوں کا آئین کہنا ہے تو اس کی دلیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل ایک ماہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں (سمع الله لمن حمده) کہتے تو نبی سلیم کے قبائل (رعل، ذکوان، عصیہ) پر بددعا کرتے، اور جو لوگ آپ ﷺ کے پیچھے ہوتے وہ آئین کہتے۔ [ابوداؤد: ۱۴۴۳، والحاکم: ۲۲۵/۱۔ شیخ البانیؒ نے اس کی سند صحیح سنن ابی داؤد میں حسن قرار دیا ہے]

❶ نماز و ترات کی آخری نماز

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا) یعنی ”تم نماز وتر رات کی نماز کے آخر میں پڑھا کرو“ [بخاری: ۹۹۸، مسلم: ۷۵۱]
 اور مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں: (مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَا [قَبْلَ الصُّبْحِ])

”جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے وہ وتر سب سے آخر میں (فجر سے پہلے) پڑھے“
 کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ [مسلم: ۷۵۱]
 ۱۷ نماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد دعا
 سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے:

(سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَلُوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَلُوسِ ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَلُوسِ ، رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)

جیسا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز وتر کی تین رکعات پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں ﴿سُبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ اور دوسری میں ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ اور تیسری میں ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھتے تھے، اور آپ رکوع سے پہلے قنوت پڑھتے تھے، اور جب آپ فارغ ہوتے تو یہ دعا تین بار پڑھتے: (سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقَلُوسِ)، آخری مرتبہ اس کے ساتھ اپنی آواز لمبی کرتے اور فرماتے: (رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ)۔

[النسائی: ۱۶۹۹۔ صحیحہ لا لبانی]

۱۸ ایک رات میں دو وتر نہیں ہیں

حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا

وَقُرْآنٍ فِي لَيْلَةٍ (”ایک رات میں دو وتر نہیں“

[ابوداؤد: ۱۴۳۹، الترمذی: ۴۷۰، التسانی: ۱۶۷۹، احمد: ۲۳/۴، ابن حبان: ۷۴/۴
برقم ۲۴۴۰۔ صحیحہ لألبانی فی صحیح الترمذی]

اور وتر کوڑنا درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ وتر کے بعد بھی دو رکعات پڑھتے تھے۔ [مسلم: ۷۳۸]

لہذا کوئی مسلمان جب رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ لے، پھر سو جائے، پھر اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اسے اٹھنے کی توفیق دے تو وہ دو دو رکعات پڑھ سکتا ہے، اور اسے وتر توڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ پہلے وتر پر ہی اکتفا کر سکتا ہے۔ [المغنی: ۵۹۸/۲]

اور میں نے امام عبدالعزیز ابن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث: ۴۰۷ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ ”وتر کو مؤخر کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسے رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لے تو دوبارہ رات کے آخری حصے میں نہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ (لَا وَقُرْآنٍ فِي لَيْلَةٍ) ”ایک رات میں دو وتر نہیں“، اور رہا وہ شخص جو وتر کو توڑنے کا قائل ہے تو وہ درحقیقت وتر تین مرتبہ پڑھتا ہے، لہذا درست بات یہ ہے کہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھنے کے بعد رات کے آخری حصے میں وہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور اسے وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔“

[نیز دیکھئے: مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۳۱۰-۳۱۱]

❶ وتر کیلئے گھر والوں کو بیدار کرنا مشروع ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ رات کی نماز پڑھتے تھے اور

میں آپ کے سامنے آپ کے بستر پر سوئی ہوئی ہوتی تھی، پھر جب آپ وتر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے بھی بیدار کر دیتے، پھر میں بھی وتر ادا کر لیتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب وتر پڑھتے تو مجھے کہتے: (قُومِي، فَأُوبِرِي بِأَعَائِشَةَ) ”اے عائشہ! اٹھو اور وتر پڑھ لو“ [البخاری: ۹۹۷، مسلم: ۷۴۴]

امام نوویؒ کہتے ہیں :

”یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا مستحب ہے، چاہے انسان تہجد پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، بشرطیکہ اسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین ہو، چاہے خود بخود بیدار ہو یا کوئی اور اسے بیدار کر دے، اور جہاں تک سونے سے پہلے وتر پڑھنے کے حکم کا تعلق ہے تو وہ اس شخص کے حق میں ہے جسے سو کر بیدار ہونے کا یقین نہ ہو“ [شرح صحیح مسلم: ۲/۲۷۰، فتح الباری: ۲/۲۸۷]

۳ وتر فوت ہو جائے تو اسے قضا کرنا چاہیے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی نماز شروع فرماتے تو اسے ہمیشہ جاری رکھتے، اور جب آپ ﷺ پر نیند غالب آجاتی یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی جس سے آپ قیام لیل نہ کر پاتے تو دن کے وقت آپ ﷺ بارہ رکعات پڑھ لیتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی ﷺ نے کبھی ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ ﷺ نے کبھی پوری رات نماز پڑھی، اور نہ ہی کبھی پورا مہینہ روزے رکھے سوائے ماہ رمضان کے.... [مسلم: ۷۴۶]

اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ نَامَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ

الظَّهْرِ حَتَّى لَه كَاتَمًا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)

ترجمہ: ”جو شخص اپنا ورد یا اس کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، اور اسے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو وہ اس کیلئے ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ اس نے اسے رات کو پڑھا“ [مسلم: ۷۷۷]

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ نَامَ عَنِ الْوُتْرِ أَوْ نَسِيَ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ)

ترجمہ: ”جو شخص نیند کی بناء پر یا بھول کر وتر نہ پڑھ سکے وہ صبح اٹھ کر یا جب اسے یاد آئے تو پڑھ لے“ [ابوداؤد: ۱۴۳۱، ابن ماجہ: ۱۱۸۸، الترمذی: ۴۶۵، الحاکم: ۳۰۲/۱، صحیح ووافقه الذہبی، واحمد: ۴۳/۳۔ صحیح اللبانی فی إرواء الغلیل: ۱۵۳/۲]

لہذا بہتر یہ ہے کہ جب کوئی شخص وتر بھول جائے یا اس سے سو جائے، تو وہ سورج کے بلند ہونے کے بعد اسے اپنی عادت کے مطابق جفت عدد میں قضا کر لے، مثلاً اگر وہ گیارہ رکعات پڑھتا تھا تو دن کے وقت بارہ رکعات پڑھ لے، اور اگر وہ نو رکعات پڑھتا تھا تو دن کے وقت دس رکعات پڑھ لے... علیٰ ہذا القیاس

اور میں نے امام ابن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث ۴۱۲ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ ”بہتر یہ ہے کہ وہ وتر کو قضا کرے، لیکن طاق عدد میں نہیں بلکہ جفت عدد میں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب نیند یا بیماری کی بناء پر وتر نہیں پڑھ سکتے تھے تو دن کے وقت بارہ رکعات پڑھ لیتے تھے“۔

۱۷ فرض نمازوں میں قنوت نازلہ

نبی کریم ﷺ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ مصیبت کے موقع پر

ایک ماہ تک ایک قوم کے خلاف بددعا کی، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیلئے دعا فرمائی جنہیں کمزور سمجھ کر کچھ لوگوں نے قیدی بنالیا تھا، اور انہیں ہجرت کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن جب یہ صورتحال ختم ہو گئی تو آپ ﷺ نے قنوت نازل بھی چھوڑ دی، اور کبھی آپ ﷺ نے اور نہ ہی آپ کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے نماز فجر یا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت نازلہ پر ہتھکی نہیں فرمائی، بلکہ جیسے ہی اس کا سبب ختم ہوتا، وہ اسے ترک کر دیتے، اور ہمیشہ جاری نہ رکھتے، لہذا سنت یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو اس کے مطابق دعا کی جائے، چاہے دعا کسی کے حق میں ہو یا کسی کے خلاف ہو۔

[دیکھیے: فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۱/۱۵۱، ۲۳/۹۸، زاد المعاد: ۱۷۲/۱]

اور نبی کریم ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تمام نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی، تاہم مغرب اور فجر میں اس کی زیادہ تاکید پائی جاتی ہے، اور جیسے ہی اس کا سبب ختم ہوا، آپ ﷺ نے اسے ترک کر دیا، حتیٰ کہ فجر میں بھی اسے چھوڑ دیا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز فجر میں ہمیشہ قنوت کو جاری رکھنا بدعت ہے، ہاں اگر اس کا سبب جاری رہے تو قنوت بھی جاری رکھی جاسکتی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے ذکر کیا ہے کہ قنوت کے مسئلے میں مسلمانوں کے تین مختلف نظریات پائے جاتے ہیں:

ایک یہ ہے کہ قنوت منسوخ ہے اور ہر قسم کی قنوت بدعت ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے قنوت پڑھی، پھر اسے چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینا اس کے منسوخ ہونے کی دلیل ہے۔

دوسرا یہ ہے کہ قنوت مشروع ہے اور اسے نماز فجر میں ہمیشہ جاری رکھنا سنت ہے۔

اور تیسرا یہ ہے کہ قنوت بوقت ضرورت مسنون ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے قنوت پڑھی، پھر اس کے اسباب کے ختم ہونے پر اسے چھوڑ دیا، لہذا مصائب کے وقت ہی قنوت کا پڑھنا مشروع ہے۔ اور یہ فقہاء الحدیث کا مذہب ہے، اور یہی درست ہے [فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۳/۹۹، ۱۰۵-۱۰۸]

نیز ان کا کہنا ہے کہ ”وتر کے علاوہ کسی اور نماز میں قنوت کا پڑھنا مشروع نہیں، الا یہ کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو تمام نمازی تمام نمازوں میں خصوصاً فجر اور مغرب میں اس مصیبت کے مطابق قنوت پڑھ سکتے ہیں“۔ [الاختیارات المفہیہ: ۹۷]

قنوتِ نازلہ کے بارے میں مختلف احادیث

(۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک ماہ تک رعل اور کوان نامی قبائل پر بدعا کرتے رہے۔

اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تیس دن تک ان لوگوں پر بدعا کی جنہوں نے بڑ معونہ کے مقام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا۔

اور تیسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اتنا غم کبھی نہیں ہوا جتنا ان ستر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شہادت پر ہوا جنہیں قراء کہا جاتا تھا اور انہیں بڑ معونہ کے مقام پر شہید کر دیا گیا تھا، اس لئے رسول اللہ ﷺ پورا مہینہ ان کے قاتلوں پر بدعا کرتے رہے۔
[بخاری: ۱۰۰۴، مسلم: ۶۷۷]

(۲) حضرت خفاف بن ایماء الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وع کیا، پھر سر اٹھایا اور فرمایا:

(غَفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا ، وَأَسْلَمَ سَالَمَهَا اللَّهُ ، وَغَضِيَّةُ غَضَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، اللَّهُمَّ الْعَنُ بَنِي لِحْيَانَ ، وَالْعَن رِعْلًا وَذَكْوَانَ)

ترجمہ: ”قبیلہ (غفار) کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی، اور قبیلہ (اسلم) کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور قبیلہ (عصیہ) نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) کی نافرمانی کی، اے اللہ! بنی لحيان پر لعنت بھیج، اور رعل اور ذکوان پر بھی لعنت بھیج“
اس کے بعد نبی کریم ﷺ سجدہ ریز ہو گئے۔ [مسلم: ۶۷۹]

(۳) حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نماز فجر اور نماز مغرب میں قنوت پڑھی۔ [مسلم: ۶۷۸]

(۴) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مغرب اور فجر کی نماز میں قنوت پڑھی جاتی تھی۔ [البخاری: ۷۹۸، ۱۰۰۴]

(۵) ابوسلمہؒ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”میں رسول اللہ ﷺ کی نماز تمہارے قریب کرونگا، پھر وہ (ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) نماز ظہر، نماز عشاء اور نماز فجر کی آخری رکعت میں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو مومنوں کیلئے دعا کرتے، اور کافروں پر لعنت بھیجتے۔ [البخاری: ۷۹۷، مسلم: ۶۷۶]

(۶) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسلسل ایک ماہ تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں کی آخری رکعت میں (سمع اللہ لمن حمدہ) کہتے تو بنی سلیم کے قبائل (رعل، ذکوان، عصیہ) پر بددعا کرتے، اور جو لوگ آپ ﷺ کے پیچھے ہوتے وہ آمین کہتے۔ [ابوداؤد: ۱۴۴۳، والحاکم: ۲۲۵- شیخ البانی] نے اس کی سند صحیح سنن ابی داؤد میں حسن قرار دیا ہے۔ [ارواء الغلیل: ۱۶۴/۲]

(۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نماز کی آخری رکعت **سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ** کہنے کے بعد قنوت پڑھتے، اور دعا کرتے ہوئے یوں مانتے: **(اللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي بَعَّةَ ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ ، هُمْ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَيْنَى يُوسُفَ)**

ترجمہ: ”اے اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور کمزور مومنوں کی نجات دے، اے اللہ! مضمر پر اپنا سخت عذاب نازل فرما، اے اللہ! انہیں قحط سالی میں افرما جیسا کہ یوسف (علیہ السلام) کے زمانے کی قحط سالی تھی“۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے تھوڑی سی دعا پڑھ لی، تو میں نے کہا: میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کیلئے دعا پڑ دی ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ وہ (جن کیلئے دعا کرتے ہیں) واپس آچکے ہیں! [بخاری: ۸۰۴، مسلم: ۶۷۵]

اور بخاری کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں:

رسول اللہ ﷺ جب کسی پر بددعا، یا کسی کے حق میں دعا کرنا چاہتے تو رکوع کے بعد مانتے۔ [بخاری: ۳۵۶۰]

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں، اور بخاری کی اور روایت میں ہے کہ عشاء کی نماز کے دوران قنوت پڑھتے تھے۔

[بخاری: ۳۵۹۸، مسلم: ۶۷۵]

(۸) عبدالرحمن بن ابزیؒ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، تو میں نے انہیں قراءت کے بعد اور رکوع سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا:

(اَللّٰهُمَّ اِنَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَخْفِئُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشٰى عَذَابَكَ، اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنَتَّئِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَتَوْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مِنْ بِكَفْرٍ)

ترجمہ: ”اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے ہی لئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں، اور ہم تیری طرف ہی جدوجہد کرتے اور لپکتے ہیں، ہم تیری رحمت کے امیدوار اور تیرے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے، اے اللہ! ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، اور تجھ پر خیر و بھلائی کی تعریف کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور تجھ پر ایمان لاتے اور تیرے لئے جھکتے ہیں، اور جو کفر کرتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں“۔

[رواہ البیہقی: ۲/۲۱۱ و صحیح إسناده، وصححه الألبانی:

إرواء الغلیل: ۲/۱۷۰]

اور دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر، اور اونچی آواز کے ساتھ قنوت پڑھی۔ [البیہقی: ۲/۱۷۲ و صحیح، الشیخ الألبانیؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے قنوت کا رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد دونوں طرح پڑھنا ثابت ہے۔ ارواء الغلیل: ۲/۱۷۱]

(۹) حضرت سعد بن طارق لا شیعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ

سے کہا: ابا جان! آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر یہاں کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے تقریباً پانچ سال نماز پڑھتے رہے ہیں، تو کیا یہ تمام حضرات نماز فجر میں قنوت پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: پیارے بیٹے! یہ ایسا عمل ہے جو پہلے نہیں تھا، اب وجود میں آیا ہے! [الترمذی: ۴۰۲، التسانی: ۱۰۸۰، ابن ماجہ: ۱۲۴۱، احمد: ۳۹۴/۶۔ صحیحہ لألبانی فی إرواء الغلیل: ۴۳۵]

لہذا عام حالات میں نماز فجر میں قنوت کا پڑھنا بدعت ہے، ہاں اگر ہنگامی حالات ہوں، اور عام مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہو تو مخصوص حالات میں نماز فجر میں قنوت پڑھی جاسکتی ہے، اسی لئے حضرت سعد بن طارق رضی اللہ عنہ نے اسے (مُخَدَّث . نیا کام) قرار دیا، اور ان کے اس اثر سے، جس میں سنت رسول ﷺ اور سنت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ کا سبب موجود ہو تو اس کا پڑھنا مشروع ہے، ورنہ یہ نماز کی کوئی دائمی سنت نہیں، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ کی کوئی خاص دعا نہیں، بلکہ سبب قنوت نازلہ کے مطابق کوئی بھی دعا کی جاسکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم ﷺ اور ان کے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کرتے تھے۔

[فتاویٰ ابن تیمیہ: ۱۰۹/۲۳، زاد المعاد: ۲۸۲/۱]

درج بالا تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ مخصوص ہنگامی / اضطراری حالات میں قنوت نازلہ مسنون ہے، اور یہ تمام نمازوں میں پڑھی جاسکتی ہے، تاہم مغرب اور فجر میں اس کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قنوت رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جہرا کی جائے، اور مقتدیوں کیلئے مشروع ہے کہ وہ امام کی دعا پر آمین کہیں۔

تنبیہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز میں مسلسل قنوت پڑھتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ [احمد: ۱۶۲/۳، الدارقطنی: ۳۹/۲۔ وضعفہ لألبانی فی السلسلۃ الضعیفۃ: ۲۳۸۔ اور میں نے امام ابن بازؒ سے بھی بلوغ المرام کی حدیث: ۳۲۵ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ یہ روایت ہر حال میں ضعیف ہے اور حضرت سعد بن طارق رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے]

دائمی سنتوں میں تیسری قسم نمازِ چاشت ہے

① نمازِ چاشت سنتِ مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ خود بھی اسے پڑھتے رہے، اور آپ نے اپنے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا تاکید کر دیا، اور ایک آدمی کو تاکید کر پوری امت کیلئے تاکید کر دیا، الا یہ کہ کسی شخص کیلئے اس کے خاص ہونے کی دلیل ثابت ہو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

(أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِفَلَاثٍ [لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ] ، صِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكَعَتَي الصُّحَى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ)

”مجھے میرے خلیل حضرت محمد ﷺ نے تین باتوں کا تاکید کر دیا ہے، جنہیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، ہر مہینے میں تین دن کے روزے، چاشت کی دو رکعات، اور یہ کہ میں نماز وتر سونے سے پہلے پڑھوں“۔ [البخاری: ۱۹۸۱، ۱۱۷۸، مسلم: ۷۲۱]

اور بعینہ یہی وصیت رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کو بھی فرمائی۔

[مسلم: ۷۲۲]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن بازؒ سے سنا تھا کہ ”یہ دونوں صحیح حدیثیں اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ نمازِ چاشت سنتِ مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ جب کسی ایک شخص کو کسی عمل کا تاکید یا حکم دیں تو وہ پوری امت کیلئے ہوتا ہے، اور وہ صرف اس شخص کیلئے خاص نہیں ہوتا، الا یہ کہ آپ ﷺ کسی عمل کے متعلق خود فرمائیں کہ یہ حکم تمہارے لئے ہی خاص ہے تو وہ یقیناً خاص ہوگا، ورنہ آپ ﷺ کا ہر حکم عام ہوتا ہے، اور آپ ﷺ کا اس پر ہمیشہ عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مسنون نہیں، کیونکہ آپ ﷺ بعض اوقات ایک عمل شروع کرتے تاکہ اس کا مسنون ہونا ثابت ہو جائے، اور پھر اسے چھوڑ دیتے تاکہ یہ ثابت ہو کہ وہ واجب نہیں۔ [یہ بات انہوں نے بلوغ المرام کی حدیث: ۴۱۵ کی شرح کے دوران بیان کی]

اور امام نوویؒ نے بھی مذکورہ احادیث ذکر کرنے کے بعد اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ نمازِ چاشت سنتِ مؤکدہ ہے۔

[شرح صحیح مسلم: ۵/۲۳۷، نیز دیکھئے: فتح الباری: ۳/۵۷۷]

لہذا درست یہ ہے کہ نمازِ چاشت پر ہمیشگی کرنا سنتِ مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اس کا تاکید یا حکم دیا، اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور خود اس پر عمل کیا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نمازِ چاشت کی کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: چار رکعات پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی زیادہ می پڑھ لیتے جتنی اللہ چاہتا۔ [مسلم: ۷۱۹]

تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کی نفی بھی مروی ہے، چنانچہ وہ بیان کرتی ہیں کہ (مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيُ مَبْعَةَ الصُّلْحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأَسْبَحُهَا،

وَاِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيَدْعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يُعْمَلَ بِهِ خَشْيَةً اَنْ
يُعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفَرِّضَ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: ”میں نے نبی کریم ﷺ کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میں خود پڑھتی ہوں، کیونکہ نبی کریم ﷺ ایک عمل کو باوجودیکہ آپ اسے جاری رکھنا پسند فرماتے، صرف اس لئے ترک کر دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ ان پر فرض کر دیا جائے۔“ [بخاری: ۱۲۲۸، مسلم: ۷۱۸]

اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم ﷺ نماز چاشت پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا:

(لَا اِلَّا اَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيْبَةٍ) ”نہیں، الا یہ کہ آپ کچھ عرصہ باہر رہے ہوں تو واپس آ کر اسے پڑھتے تھے“ [مسلم: ۷۱۷]

لیکن اثبات اور نفی میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ انہوں نے نماز چاشت کا اثبات اُس خبر کی بنیاد پر کیا جو کہ ان تک پہنچی تھی کہ آپ ﷺ چار رکعات پڑھتے تھے، اور انہوں نے نفی اپنے نہ دیکھنے کی کی ہے، یعنی انہوں نے آپ ﷺ کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا الا یہ کہ آپ ﷺ باہر رہنے کے بعد واپس آئے ہوں تو تب آپ ﷺ یہ نماز پڑھتے تھے، اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اپنے فعل کا تعلق ہے کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتی تھیں، تو یہ اس بناء پر تھا کہ انہیں نماز چاشت کی فضیلت میں نبی کریم ﷺ کی احادیث پہنچ چکی تھیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ خود آپ ﷺ بھی نماز چاشت پڑھتے تھے۔ [سل السلام: ۶۰/۳]

اور امام الشوکانیؒ کہتے ہیں:

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں محض اتنی بات ہے کہ انہوں نے اپنے علم کے مطابق خبر دی ہے، جبکہ ان کے علاوہ دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نمازِ چاشت سببِ مؤکدہ ہے اور اس پر ہیئتی کرنی چاہیے، اور جس کو علم حاصل ہے وہ حجت ہے اس پر جس کو علم حاصل نہیں، خاص طور پر یہ بات مد نظر رہے کہ نمازِ چاشت ان اوقات میں نہیں پڑھی جاتی کہ جن میں عموماً عورتوں کے ساتھ خلوت ہوتی ہے“۔

[نیل الاوطار: ۲/۲۵۶]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث: ۴۱۵-۴۱۷ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ ان روایات میں تطبیق اس طرح دی جاسکتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اس نماز کے اثبات کی خبر دی، پھر شاید وہ بھول گئیں، یا یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے پہلے نفی کی ہو، پھر انہیں یاد آ گیا ہو، بہر حال اثبات نفی پر حجت ہے، جیسا کہ اثبات اور نفی اگر الگ الگ صحابی سے مروی ہوتے تو ثابت کرنے والے کو نفی کرنے والے پر مقدم کیا جاتا۔

۲ نمازِ چاشت کی فضیلت

پہلی حدیث: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَىٰ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزَىٰ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الصُّلَىٰ)

ترجمہ: ”تم میں سے ہر شخص کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے، پس ہر

(سبحان اللہ) صدقہ ہے، اور ہر (الحمد للہ) صدقہ ہے، اور ہر (لا اِلهَ اِلاَّ اللہ) صدقہ ہے، اور ہر (اللہ اکبر) صدقہ ہے، اور نیکی کا ہر حکم صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب سے چاشت کی دو رکعات ہی کافی ہو جاتی ہیں“۔ [مسلم: ۷۲۰]

دوسری حدیث: حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَيْسَ الْإِنْسَانُ لِلْإِيمَانِ وَسِعُونَ مَفْضَلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْضَلٍ بِصَدَقَةٍ)

ترجمہ: ”ہر انسان میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں، اور اس پر لازم ہے کہ وہ ہر جوڑ کی جانب سے ایک صدقہ کرے“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا: اے اللہ کے نبی! کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے جواب دیا:

(الْخُشَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَلْفِيْهَا، وَالشَّيْءُ تَنْجِيْهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الصُّلَى تُجْزِيْكَ)

ترجمہ: ”مسجد میں پڑی تھوک کو دفن کر دو، اور راستے پر پڑی چیز کو ہٹا دو، اگر تم یہ نہ پاؤ تو چاشت کی دو رکعتیں کافی ہو جائیں گی“

[ابوداؤد: ۵۲۳۲، احمد: ۳۵۴/۵۔ صحیحہ لألبانی]

اور انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ ہونے کا ثبوت حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ملتا ہے، جس میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: (إِنَّهُ خَلَقَ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنَى آدَمَ عَلَى سِتْعَيْنَ وَلِلْإِيمَانِ مَفْضَلٌ....) [مسلم: ۱۰۰۷]

ترجمہ: ”بنی آدم میں سے ہر انسان کی خلقت تین سو ساٹھ جوڑوں پر کی گئی ہے...“

تیسری حدیث: حضرت نعیم بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ! لَا تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعٍ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابن آدم! تم دن کے اول حصے میں چار رکعات مت چھوڑو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔“
[ابوداؤد: ۱۲۸۹۔ صحیحہ لا لبانی]

چوتھی حدیث: حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(إِنَّ آدَمَ! إِذْ كُنْتُ لِي أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ)
ترجمہ: ”اے ابن آدم! تم دن کے اول حصے میں چار رکعات پڑھا کرو، میں دن کے آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔“ [الترمذی: ۴۷۵۔ صحیحہ لا لبانی]

پانچویں حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے اور سورج کے بلند ہونے کے بعد نمازِ چاشت کے پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَبْجَةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَةٍ تَامَةٍ)
ترجمہ: ”جس شخص نے نمازِ فجر باجماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر دو رکعتیں پڑھیں، تو اسے یقینی طور پر مکمل حج و عمرہ کا ثواب ملے گا۔“

[الترمذی: ۵۸۶۔ صحیحہ لا لبانی، اور میں نے امام ابن باز سے سنا کہ انہوں نے

اسے حسن قرار دیا]

اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ فجر کی نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جاتا ۔

[مسلم: ۶۰:۱ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ]

۲۰ نمازِ چاشت کا وقت ایک نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوالِ آفتاب سے کچھ پہلے تک جاری رہتا ہے، تاہم بہتر یہ ہے کہ اسے سورج کی دھوپ کی گرمی کے وقت پڑھا جائے۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ الْاَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفَيْصَالُ) [مسلم: ۷۳۸]

ترجمہ: ”اوابین کی نماز اس وقت پڑھی جائے جب دھوپ سخت گرم ہو جائے۔“

لہذا جو شخص اسے نیزے کے برابر سورج کے بلند ہونے کے بعد پڑھے اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو اسے سخت گرمی کے وقت زوال کا ممنوع وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ [مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۳۹۵]

۲۱ نمازِ چاشت کی کم از کم رکعات دو ہیں، اور زیادہ سے زیادہ رکعات کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے دو رکعات کے پڑھنے کا تاکید کی حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ اس حوالے سے چند احادیث پہلے گزر چکی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ذکر بھی سابقہ سطور میں کیا جا چکا ہے، جس میں یہ ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ رسول اللہ ﷺ نمازِ چاشت کی کتنی

رکعات پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: چار رکعات پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی زیادہ بھی پڑھ لیتے جتنی اللہ چاہتا۔ [مسلم: ۷۱۹]

جبکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ دونوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نمازِ چاشت کی چھ رکعات پڑھیں۔ [الطبرانی فی الاوسط: ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، الترمذی فی الاسماء: ۲۳۵، صحیحہ الالبانی فی الارواء: ۳۶۳]

اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن سورج کے بلند ہونے کے بعد ان کے گھر میں آٹھ رکعات پڑھیں، اور ان کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو اتنی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، تاہم آپ ﷺ رکوع و سجود مکمل کرتے تھے۔ [البخاری: ۱۱۰۳، مسلم: ۳۳۶]

اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نمازِ چاشت کی زیادہ سے زیادہ رکعات کی کوئی تعداد متعین نہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(.. صَلَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ الْفَصْرَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحَيْنَيْدٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ ، ثُمَّ الْفَصْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حَيْنَيْدٍ تُسَجِّرُ جَهَنَّمَ ...)

ترجمہ: ”تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا بند کر دو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی وقت کفار اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وقت نماز میں

فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب (سورج آسمان کے عین وسط تک پہنچ جائے اور) تیر کا سایہ بالکل سیدھا کھڑا ہو (نہ دائیں ہو اور نہ بائیں)، تو اس وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ عین اسی وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ [مسلم: ۸۳۲]

اور سنن ابی داؤد میں اس کے الفاظ یوں ہیں: ”... پھر نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور وہ ایک تیر یا دو تیروں کے برابر اونچا چلا جائے“ [ابوداؤد: ۱۲۷۷]

دوسری قسم: نمازِ نفل کی دوسری قسم وہ نماز ہے جس کیلئے جماعت

مشروع کی گئی ہے

وہ نفل نماز جسے باجماعت ادا کرنا مشروع ہے اس میں سے ایک نمازِ ترواتیح ہے:

① ترواتیح کا مفہوم: نمازِ ترواتیح کو ترواتیح اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ ہر چار رکعات کے بعد کچھ دیر کیلئے آرام کرتے تھے۔

[القاموس المحیط: ص ۲۸۲، لسان العرب: ۳۶۲/۲]

اور ترواتیح ماہِ رمضان کے دوران اس قیام کا نام ہے جو رات کے ابتدائی حصے میں ادا کیا جائے، اور اسے ترویجہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہر دو رکعات کے بعد کچھ دیر آرام کرتے تھے، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسے تھی؟ تو انہوں نے کہا:

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسَيْنٍ وَطُولَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا....)

یعنی ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پہلے چار رکعات یوں ادا فرماتے کہ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں مت پوچھو، پھر چار رکعات اس طرح ادا فرماتے کہ ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں بھی مت پوچھو، پھر تین رکعات ادا فرماتے....“

[البخاری: ۱۱۴۷، مسلم: ۷۳۸]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ آپ ﷺ پہلے چار رکعات پڑھتے، پھر چار رکعات اور پھر تین رکعات پڑھتے.... یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی چار اور دوسری چار کے درمیان کچھ فاصلہ ہوتا، اور اسی طرح دوسری چار اور ان کے بعد تین رکعات کے درمیان بھی فاصلہ ہوتا، اور یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے اور آخر میں ایک رکعت کے ساتھ وتر پڑھتے۔

[مسلم: ۷۳۶، نیز دیکھئے: الشرح لمصح لابن عثیمین: ۴/۶۶]

گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پہلی روایت کی تفسیر کر رہی ہے، اور خود نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد کہ

(صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنِي مَثْنِي) ”رات کی نفل نماز دو دو رکعات ہے“

[البخاری: ۹۹۰، مسلم: ۷۳۹] بھی اسی بات کو واضح کر رہا ہے۔

① نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے فرمان سے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی اور اپنے عمل سے بھی اس کی تاکید کی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قیام

رمضان کی ترغیب دیتے تھے، لیکن انہیں سختی کے ساتھ اس کا حکم نہیں دیتے تھے، اور آپ ﷺ ارشاد فرماتے:

(مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

ترجمہ: ”جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب طلب کرتے ہوئے قیام رمضان کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔“

[البخاری: ۳۷، مسلم: ۷۵۹]

امام نوویؒ کہتے ہیں کہ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نمازِ تراویح مستحب ہے، جبکہ امام ابنِ قدامہؒ نے ذکر کیا ہے کہ یہ سنتِ مؤکدہ ہے۔ [شرح صحیح مسلم: ۶/۲۸۶، المغنی لابنِ قدامہ: ۲/۶۰۱]

۳۳ حدیث مذکور میں نمازِ تراویح کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے، لہذا جو شخص اسے برحق سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی شریعت تصور کرتے ہوئے، اور رسول اللہ ﷺ نے اس کی جو فضیلت بیان فرمائی اس کی تصدیق کرتے ہوئے، اور پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر و ثواب اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہوئے ادا کرے اسے یہ عظیم فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔

[فتح الباری لابن حجر: ۹۲/۱، نیل الأوطار: ۲/۲۳۳]

۳۴ نمازِ تراویح اور قیامِ رمضان کیلئے جماعت مشروع ہے، اور جب تک امام پوری نماز ختم نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ نماز جاری رکھنی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رمضان کے

روزے رکھے، آپ ﷺ نے اس دوران ہمیں قیام نہیں کرایا، یہاں تک کہ صرف سات روزے باقی رہ گئے، چنانچہ آپ ﷺ نے ۲۳ کی رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، اور اتنی لمبی قراءت کی کہ ایک تہائی رات گزر گئی، پھر چوبیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام نہیں پڑھایا، پھر پچیسویں رات کو آپ ﷺ نے قیام پڑھایا، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کاش کہ آپ رات کا بقیہ حصہ بھی قیام ہی پڑھاتے! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ)

ترجمہ: ”جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیتا ہے“

پھر چھبیسویں رات گزر گئی اور آپ ﷺ نے قیام نہیں پڑھایا، پھر ستائیسویں رات کو آپ ﷺ نے اپنے گھر والوں اور ازواجِ مطہرات اور دیگر لوگوں کو جمع کر کے اتنا سببا قیام پڑھایا کہ ہمیں سحری کے فوت ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے ماہِ رمضان کے باقی ایام میں ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا۔“

[احمد: ۱۵۹/۵، الترمذی: ۸۰۶، وقال: حسن صحیح، ابوداؤد: ۱۳۷۵، النسائی

: ۱۶۰۵، ابن ماجہ: ۱۳۲۷، ابن خزمیہ: ۲۲۰۶، ابن حبان: ۲۵۳۸۔ صحیحہ الألبانی]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ آدھی رات کے وقت نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دی، چنانچہ کچھ لوگوں نے بھی آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو اس نماز کے متعلق بتایا، اس لئے دوسری رات کو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے رسول

اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب صبح ہوئی تو تمام لوگوں میں اس نماز کا چہ چاہونے لگا، چنانچہ تیسری رات کو نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، نبی کریم ﷺ ان کی طرف گئے اور انہیں نماز پڑھائی، پھر جب چوتھی رات آئی تو مسجد لوگوں کو اپنے اندر سونے سے عاجز آگئی، لیکن رسول اللہ ﷺ فجر کی نماز تک ان کی طرف نہ نکلے، اس دوران بعض لوگ ”نماز، نماز“ کہتے رہے، لیکن آپ ﷺ فجر تک گھر ہی میں ٹھہرے رہے، پھر باہر گئے، فجر کی نماز پڑھائی، اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا:

(أَمَّا بَعْدُ أَلَيْسَ لَمْ يَخَفْ عَلَى شَأْنِكُمْ ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَتَعَجِزُوا عَنْهَا) وَذَلِكَ لِي رَمَضَانَ .

ترجمہ: ”حمد و ثناء کے بعد! مجھ پر تمہارا معاملہ مخفی نہ تھا، بلکہ مجھے صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔“ اور یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ [البخاری: ۹۲۳، مسلم: ۷۶۱]

اور حضرت عبدالرحمن بن عبد القاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں رات کے وقت حضرت عمر بن الخطاب رحمہ اللہ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں منقسم ہیں، کہیں ایک شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور کہیں ایک شخص اکیلے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو کچھ لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رحمہ اللہ نے کہا:

(إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلًا)

”میں خیال کرتا ہوں کہ اگر میں انہیں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا“

پھر انہوں نے پختہ عزم کر لیا، اور انہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا، پھر میں دوسری رات کو بھی ان کے ساتھ نکلا تو تمام لوگ ایک ہی قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

(يٰعَمَّ الْبِلْدَةَ هَلِیْہِ ، وَ اَلِیٰی یَنَامُوْنَ عَنْہَا اَفْضَلُ مِنْ اَلِیٰی یَقُوْمُوْنَ .
یُرِیْدُ اٰخِرَ اللَّیْلِ . وَ كَانَ النَّاسُ یَقُوْمُوْنَ اَوَّلَہِ)

”یہ ایک اچھا نیا کام ہے، اور یہ جس نماز سے سوئے رہتے ہیں وہ اُس نماز سے بہتر ہے جسے یہ اب پڑھ رہے ہیں“، یعنی رات کے آخری حصے میں، اور لوگ رات کے ابتدائی حصے میں نماز پڑھتے تھے۔ [البخاری: ۲۰۱۰]

اور یہ تمام احادیث باجماعت نماز تراویح اور قیام رمضان کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ کہ جو شخص امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑھتا ہے اس کیلئے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

اور رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ (یٰعَمَّ الْبِلْدَةَ هَلِیْہِ) یعنی ”یہ ایک اچھا نیا کام ہے“ تو اس سے مراد شرعی بدعت نہیں بلکہ لغوی طور پر نیا کام ہے کیونکہ یہ عمل اس سے پہلے اس صورت میں انجام نہیں دیا جاتا تھا، اس لئے اسے نیا کام قرار دیا، ورنہ شریعت میں اس نماز کیلئے چند اصول موجود تھے جن کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے، اور وہ یہ ہیں:

(۱) نبی کریم ﷺ قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے، اور خود آپ ﷺ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کچھ راتیں یہ نماز پڑھاتے رہے، پھر اسے باجماعت پڑھنا اس لئے ترک کر دیا کہ کہیں یہ ان پر فرض نہ کر دی جائے اور وہ اس سے عاجز آجائیں، اور یہ

خدا شہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ختم ہو گیا تھا!

(۲) نبی کریم ﷺ نے سنتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی اتباع کرنے کا حکم دیا، اور یہ عمل بھی اسی کا ایک حصہ تھا۔

اور میں نے امام عبدالعزیز بن بازؒ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت کی شرح کے دوران سنا تھا کہ یہاں بدعت لغویہ مراد ہے، اور مقصود یہ ہے کہ انہوں نے یہ عمل بایں طور شروع کیا تھا کہ پورے ماہ رمضان المبارک میں اسے باجماعت پڑھتے، اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی تھی، اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اچھی بدعت قرار دیا، ورنہ یہ ایک سنت ہے جس پر خود نبی کریم ﷺ نے بعض راتیں عمل کیا۔

❶ آخری عشرے میں قیامِ رمضان کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلة القدر آتی ہے جس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)

ترجمہ: ”جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ اجر و ثواب کی خاطر لیلة القدر کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں“ [البخاری: ۲۰۱۴، مسلم: ۷۶۰]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو رسول اللہ ﷺ رات بھر جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور کمر بستہ ہو کر خوب عبادت کرتے۔ [البخاری: ۲۰۲۳، مسلم: ۱۱۷۴]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ عبادات میں جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی کبھی نہیں کرتے تھے۔ [مسلم: ۱۱۷۵]

اور حضرت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تیسویں رات کو تہائی رات تک قیام کیا، پھر پچیسویں رات کو آدھی رات تک کیا، اور ستائیسویں رات کو اتنا سب قیام کیا کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ شاید آج ہم سحری نہیں کر سکیں گے۔ [النسائی: ۱۶۰۶۔ صحیحہ الألبانی]

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے جس کا تذکرہ سابقہ سطور میں ہو چکا ہے۔

① نماز ترواتیح کا وقت نمازِ عشاء کی سنتوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔

[الشرح لمصیح لابن عثیمین: ۸۲/۴]

② رکعات ترواتیح کی تعداد

رکعات ترواتیح کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا ہے کہ جس کے سوا کوئی اور تعداد جائز ہی نہ ہو، بلکہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(صَلَاةُ اللَّيْلِ مَغْنًى مَغْنًى ، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً تُؤَيِّرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)

ترجمہ: ”رات کی نفل نماز دو دو رکعات ہے، لہذا تم میں سے کسی شخص کو جب صبح کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ادا کر لے جو اس کی نماز کو وتر (طاق) بنا دے گی۔“ [بخاری: ۹۹۰، مسلم: ۷۳۹]

لہذا کوئی شخص اگر بیس رکعات پڑھ کر تین وتر پڑھ لے، یا چھتیس رکعات پڑھ کر تین وتر پڑھ لے، یا اکتالیس رکعات پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

[سنن الترمذی: ۱۶۱/۳، المغنی لابن قدامة: ۶۰۳/۲، فتاویٰ ابن تیمیہ:

۲۳/۱۱۲-۱۱۳، سبل السلام للمصنعانی: ۲۰/۳-۲۳]

لیکن افضل تعداد وہ ہے جو خود رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے، اور وہ ہے تیرہ یا گیارہ رکعات، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) یعنی ”رسول اللہ ﷺ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے تھے“۔ [مسلم: ۷۶۴]

اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسے تھی؟ تو انہوں نے کہا:

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً)

یعنی ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے....“ [البخاری: ۱۱۴۷، مسلم: ۷۳۸]

لہذا یہی تیرہ یا گیارہ رکعات ہی افضل ہیں، اور کامل ثواب بھی اسی تعداد میں ہے۔ [الشرح لمصح لابیٰ بن عثیمین: ۷۲/۴، فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۳۲۰-۳۲۳]

اور اگر وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ پہلی حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے۔

تیسری قسم: نماز نفل کی تیسری قسم عمومی نفل نماز ہے، جو کہ دن اور رات میں ہر وقت مشروع ہے سوائے ممنوعہ اوقات کے۔
اور اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نماز تہجد

① تہجد کا مفہوم: لفظ تہجد ”ہجد“ سے ہے، اور اس کا معنی ہے رات کے وقت سونا اور پھر اٹھ کر نماز پڑھنا، اور متہجد اس شخص کو کہتے ہیں جو نیند سے بیدار ہو کر نماز کیلئے کھڑا ہو جائے۔ [لسان العرب: ۴۳۲/۳، القاموس المحیط: ۴۱۸]

② نماز تہجد سنت مؤکدہ ہے، اور کتاب اللہ، سنت رسول ﷺ اور

اجماع امت سے ثابت ہے۔

اور نماز تہجد کی عظمت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ کو حکم دیا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ ☆ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ☆ بَصُفَةً أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ☆ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: ۱-۴]

ترجمہ: ”اے کپڑا اوڑھنے والے! رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر باقی قیام کیجئے، رات کا آدھا حصہ یا اس سے کچھ کم کر لیجئے، اس سے زیادہ کیجئے اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے۔“

اسی طرح فرمایا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ [الاسراء: ۷۹]

ترجمہ: ”اور رات کو تہجد ادا کیجئے، یہ آپ کیلئے زائد کام ہے، ممکن ہے کہ آپ کا رب

آپ کو مقامِ محمود پر فائز کر دے۔“

نیز فرمایا: ﴿إِنَّا نَعْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ☆ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيْمًا أَوْ كُفُورًا ☆ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ☆ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾

[الانسان: ۲۳-۲۶]

ترجمہ: ”ہم نے ہی آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے مطابق مبرا کیجئے، اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانیئے، اور صبح و شام اپنے رب کا نام ذکر کیجئے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کیجئے، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کیجئے۔“

اور فرمایا: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ۴۰]

ترجمہ: ”اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے“

اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَذْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ۴۹]

ترجمہ: ”اور رات کو اس کی تسبیح کیجئے اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔“

نیز فرمایا: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾

[آل عمران: ۱۱۳]

ترجمہ: ”وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور سجدہ ریز رہتے ہیں۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ۱۷]

ترجمہ: ”اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں“۔

۲۰ رات کے قیام کی فضیلت انتہائی عظیم ہے کیونکہ:

① نبی کریم ﷺ اس کا اتنا اہتمام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم آ جاتا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو (اتنا طویل) قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے، میں عرض کرتی، اے اللہ کے رسول! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ تو آپ ﷺ ارشاد فرماتے: (أَفَلَا أَتُكُونُ عَبْدًا ضَالًّا مَلُومًا)

”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ [البخاری: ۲۸۳۷، مسلم: ۲۸۲۰]

اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اتنا لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر درم ہو گیا، آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، پھر بھی آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں! تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَفَلَا أَتُكُونُ عَبْدًا ضَالًّا مَلُومًا) ”کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟“ [البخاری: ۲۸۳۶، مسلم: ۲۸۱۹]

اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے چند اشعار میں آپ کے قیام کی کیفیت یوں بیان کی:

وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع
بيت بجافى جنبه عن فراشه إذا استقلت بالكافرين المضامع
ترجمہ: ”اور ہم میں ایک ایسے اللہ کے رسول ﷺ ہیں جو اس وقت کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں جب صبح صادق کی روشنی پھیلتی ہے، اور آپ رات اس حالت میں

گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، جبکہ کافراں وقت اپنی گہری نیند میں مست ہوتے ہیں۔“

② نماز تہجد دخولِ جنت کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ بڑی تیزی کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی طرف بڑھے (اور آپ کا استقبال کیا)، اور ہر جانب یہ آواز لگائی گئی کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں، چنانچہ میں بھی لوگوں میں شامل ہو گیا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں، پھر جب میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے آدمی کا نہیں ہو سکتا، اور میں نے آپ ﷺ سے جو سب سے پہلی حدیث سنی وہ یہ تھی:

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّقُوا اللَّهَ، وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ)

ترجمہ: ”اے لوگو! سلام کو پھیلادو، کھانا کھاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، (اگر یہ کام کرو گے تو) جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔“

[ابن ماجہ: ۱۳۳۳، الترمذی: ۲۲۸۵، ۱۹۸۴، والحاکم: ۱۳/۳، واحمد: ۴۵۱/۵۔

وصححه الألبانی فی الصحیحۃ: ۵۶۹، وإرواء الغلیل: ۲۳۹/۳]

اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

الهیک للذة نومة عن خیر عیش مع الخیرات فی غرف الجنان

تعیش مغلدا لا موت فیہا وتنعم فی الجنان مع الحسان

يَقِظُ مِنْ مَنَامِكَ إِنْ خَيْرًا مِنَ النُّومِ التَّهَجُّدِ بِالْقُرْآنِ
ترجمہ: ”تجھے نیند کی لذت نے اس بہترین زندگی سے غافل کر دیا ہے جو جنت کے
بالا خانوں میں خوب سیرت عورتوں کے ساتھ ہوگی، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اور وہاں
موت نہیں آئے گی، اور تم جنت میں خوبصورت عورتوں کے ساتھ عیش کرو گے، (لہذا)
اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ، کیونکہ نماز تہجد میں قرآن پڑھنا سونے سے کہیں بہتر ہے۔“
[قیام اللیل للمروزی: ۹۰، التہجد و قیام اللیل لابن ابی الدنیا: ۱۷۳]

۱۵ قیام اللیل جنت کے بالا خانوں میں درجات کی بلندی کا ایک سبب ہے، جیسا
کہ حضرت ابوما لک الأشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
(إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا،
أَعْلَاهَا اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ أُطْعِمَ الطَّعَامَ، وَالْأَلَنَ الْكَلَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ،
وَأَفْسَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ)

ترجمہ: ”بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی منظر اندر سے اور
اندرونی منظر باہر سے دیکھا جاسکتا ہے، انھیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کیلئے تیار کیا ہے جو
کھانا کھلاتا ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو، اور رات کو اس وقت نماز
پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔“ [احمد: ۳۴۳/۵، ابن حبان (موارد الظمآن):
۶۴۱، الترمذی (عن علی رضی اللہ عنہ): ۲۵۲۷، وحسنہ الألبانی فی صحیح سنن

الترمذی و صحیح الجامع ۲۱۱۹]

۱۶ قیام اللیل پر ہمیشگی کرنے والے متقین اور محسنین میں سے ہیں جو کہ اللہ کی رحمت
اور اس کی جنت کے مستحق ہیں، فرمان الہی ہے:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ☆ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

[الذاریات: ۱۷، ۱۸]

ترجمہ: ”رات کو کم سویا کرتے تھے، اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔“

⑤ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات کے ضمن میں قیام اللیل کرنے والوں کی یوں

تعریف فرمائی: ﴿وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾ [الفرقان: ۶۴]

ترجمہ: ”اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔“

⑥ اور اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کرنے والوں کے ایمان کامل کی شہادت یوں دی:

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا

بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ☆ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ☆ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا

أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ۱۵، ۱۶، ۱۷]

ترجمہ: ”ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت

کی جاتی ہے تو وہ سجدہ میں گر جاتے ہیں، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان

کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے

رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس سے خرچ

کرتے ہیں، پس کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے کیا چیزیں ان کیلئے

چھپا کر رکھی گئی ہیں، یہ ان کاموں کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔“

⑦ اللہ تعالیٰ نے قیام کرنے والوں کو ان لوگوں کے برابر قرار نہیں دیا جو قیام نہیں

کرتے، اور اس نے ان ایمان والوں کو اصحاب علم قرار دیا ہے جو کہ رات کو قیام کرتے

ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بڑا بیان کیا ہے، فرمان الہی ہے: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَابَتْ آتَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ۹]

ترجمہ: ”کیا (یہ بہتر ہے) یا جو شخص رات کے اوقات سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرتے گذارتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے، ان سے پوچھے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر ان باتوں سے سبق تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔“

۸) قیام اللیل گناہوں کو مٹاتا اور برائیوں سے روکتا ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ بَلَلَكُمْ ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمُكَفِّرٌ لِلْسَيِّئَاتِ ، وَمَنْهَاجٌ لِلنَّامِ)

ترجمہ: ”تم قیام اللیل ضرور کیا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت تھی، اور اس سے تمہیں تمہارے رب کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ گناہوں کو مٹانے والا، اور برائیوں سے روکنے والا ہے۔“

[الترمذی: ۳۵۴۹، الحاکم: ۱/۳۰۸، المعجم: ۵۰۲/۲، وحسنہ لألبانی فی صحیح سنن

الترمذی، واریاداء الغلیل: ۳۵۲]

۹) فرض نماز کے بعد قیام اللیل سب سے افضل نماز ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے نماز تہجد کی ترغیب دیتے

ہوئے ارشاد فرمایا:

(أَفْضَلُ الصَّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ : شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْقَرِيبَةِ : صَلَاةُ اللَّيْلِ)

ترجمہ: ”رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز ہے۔“ [مسلم: ۱۱۶۳]

⑩ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے

حضرت اہل بن سعد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے:

(يَا مُحَمَّدُ اعِشْ مَا حِثَّ لِنَاكَ مَيْتٌ ، وَأُحِبُّ مَنْ حِثَّ لِنَاكَ مُفَارِقُهُ ، وَاعْمَلْ مَا حِثَّ لِنَاكَ مَجْزِي بِهِ) ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ احْرِفْ الْمُؤْمِنِينَ قِيَامُ اللَّيْلِ ، وَعِزَّةُ اسْتِعْنَاوَةِ عَنِ النَّاسِ)

ترجمہ: ”اے محمد! آپ جتنا عرصہ چاہیں زندہ رہیں، آخر کار آپ پر موت ہی آنی ہے، اور جس سے چاہیں محبت کر لیں، آخر کار آپ اس سے جدا ہونے والے ہیں، اور آپ جو چاہیں عمل کریں، آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا“
پھر انہوں نے کہا: ”اے محمد! مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے نیاز ہونے میں ہے۔“

[الحاکم: ۳۲۵/۴ - صحیحہ ووافقہ الذہبی ، حسن إسناده المنذرى فى الترغيب والترهيب: ۶۴۰/۱ وحسنه لألبانى فى الصحیحہ: ۸۳۱]

⑩ قیام اللیل کے عظیم ثواب کی بناء پر قیام کرنے والا قابل رشک ہے، کیونکہ قیام

دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي السُّنَّتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ)

ترجمہ: ”صرف دو آدمی ہی قابلِ رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا (اسے حفظ کرنے کی توفیق دی) اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور وہ اسے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے“ [مسلم: ۸۱۵]

⑤ قیام اللیل میں قراءتِ قرآن کرنا بہت بڑی غنیمت ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكُتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِمِينَ ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْطِرِينَ)

ترجمہ: ”جو شخص دس آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا، اور جو شخص سو آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ فرمانبرداروں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص ایک ہزار آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے اسے اجر و ثواب کے خزانے حاصل کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔“ [ابوداؤد: ۱۳۹۸، وابن خزیمہ: ۱۸۱/۲، صحیحہ لا لبانی فی صحیح سنن ابی داؤد و الصحیحۃ: ۶۴۳]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَكْبَحُ أَحَدَكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خِلَافَاتٍ عِظَامٍ)

سِمَانُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ ، قَالَ : ثَلَاثَ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خِلْفَاتٍ عِظَامِ سِمَانٍ

ترجمہ: ”کیا تم میں سے کسی شخص کو یہ بات پسند ہے کہ جب وہ اپنے گھر کو واپس لوٹے تو اس میں تین حاملہ اور بڑی ہی موٹی اور صحت مند اونٹنیاں پائے؟ ہم نے کہا: جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اگر تین آیات اپنی نماز میں پڑھ لے تو یہ اسے کیلئے تین حاملہ اور صحت مند اونٹیوں سے بہتر ہے۔“ [مسلم: ۸۰۲]

اور نبی کریم ﷺ نے قرآن مجید کے ختم کیلئے کم از کم مدت تین دن مقرر فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ”چالیس دن“، پھر آپ نے فرمایا: ”ایک ماہ“، پھر آپ نے فرمایا: ”بیس دن“، پھر آپ نے فرمایا: ”پندرہ دن“، پھر آپ نے فرمایا: ”دس دن“، پھر آپ نے فرمایا: ”ایک ہفتہ“، انہوں نے کہا: میں اس سے بھی کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: (لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثِ) ”جو شخص اسے تین دن سے کم مدت میں پڑھتا ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکتا۔“ [ابوداؤد: ۱۳۹۵، ۱۳۹۰۔ صحیح ابوالبابی]

۷ قیام اللیل کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے

نماز تہجد کا سب سے افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے، تاہم رات کے ابتدائی حصے میں، درمیانے حصے میں اور اس کے آخری حصے میں بھی تہجد پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کسی مہینے میں اس قدر روزے چھوڑتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ نے اس میں سرے سے روزے رکھے ہی

نہیں، اور کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے کہ ہم یہ گمان کرتے کہ آپ نے کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں، اور رات کے جس حصہ میں آپ نبی کریم ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے، ضرور دیکھ لیتے، اور جس حصہ میں آپ کو سوئے ہوئے دیکھنا چاہتے دیکھ لیتے۔ [بخاری: ۱۱۴۱]

اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسئلہ میں آسانی ہے، اور کوئی مسلمان رات کے کسی حصے میں جب بآسانی قیام اللیل کر سکتا ہو تو وہ کر لے، تاہم رات کے آخری تہائی حصے میں کرنا افضل ہے، جیسا کہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ يُذَكِّرُ اللَّهَ فِي بِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے کا وسط ہوتا ہے، لہذا اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو ایسا ضرور کرنا“۔

[الترمذی: ۳۵۷۹، ابوداؤد: ۱۲۷۷، الترمذی: ۵۷۲۔ صحیحہ (البانی)]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يُنَزِّلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ اللَّيْلُ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يُسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ) (وہی روایت لمسلم: (فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَّءَ الْفَجْرُ)

ترجمہ: ”ہمارا رب‘ جو بابرکت اور بلند و بالا ہے‘ جب ہر رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو وہ آسمانِ دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے، پھر کہتا ہے: کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف کروں؟“ اور مسلم کی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: ”پھر وہ بدستور اسی طرح رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جائے۔“ [البخاری: ۱۱۳۵، ۶۳۲۱، ۴۹۹۴، مسلم: ۷۵۸]

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ)

ترجمہ: ”بے شک ہر رات کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں کوئی مسلمان بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا کرتا ہے۔“ [مسلم: ۷۵۷]

اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ ثُلُثَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَقْرَأُ إِذَا لَأَقَى)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، وہ آدھی رات سوتے تھے، اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے، اور اس کا چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن

روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور جب (دشمن سے) ملاقات کرتے تو راہ فرار اختیار نہ کرتے“۔ [البخاری: ۱۱۳۱، ۱۹۷۹، مسلم: ۱۱۵۹]

اور مسروقؓ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ کونسا عمل نبی کریم ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ عمل جو ہمیشہ جاری رہے، میں نے کہا: آپ ﷺ قیام کیلئے کب بیدار ہوتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: جب مرغی کی آواز سننے۔ [البخاری: ۱۱۳۲، مسلم: ۷۴۱]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم ﷺ کو رات کے کسی حصے میں بیدار کر دیتا، پھر آپ ﷺ طلوع فجر سے پہلے ہی اپنا ورد مکمل کر لیتے۔ [ابوداؤد: ۱۳۱۶۔ وحسنہ لا لبانی]

۵ رکعات قیام اللیل کی تعداد

قیام اللیل کیلئے کوئی ایک عدد خاص نہیں کیا گیا، جیسا کہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا عَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى)

ترجمہ: ”رات کی نفل نماز دو دو رکعات ہے، لہذا تم میں سے کسی شخص کو جب صبح کے طلوع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ادا کر لے جو اس کی نماز کو وتر (طاق) بنادے گی“۔ [البخاری: ۹۹۰، مسلم: ۷۴۹]

تاہم افضل یہ ہے کہ گیارہ یا تیرہ رکعات سے زیادہ نہ پڑھی جائیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا اپنا عمل یہی تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نماز عشاء سے (جسے لوگ العتمة۔ رات کی نماز۔ کہتے ہیں) فارغ ہو کر فجر کی نماز تک

گیارہ رکعات پڑھتے تھے، ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے، اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھ لیتے..... [مسلم: ۷۳۶]

اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ رمضان میں رسول اللہ ﷺ کی نماز کیسے تھی؟ تو انہوں نے کہا:

(مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً....)

یعنی ”رسول اللہ ﷺ رمضان میں اور اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے....“ [البخاری: ۱۱۳۷، مسلم: ۷۳۸]

❶ قیام اللیل کے آداب

① سوتے وقت قیام اللیل کی نیت کرے، اور نیند کے ذریعے اطاعت کیلئے طاقت کے حصول کا ارادہ کرے تاکہ اس کی نیند پر بھی اسے ثواب حاصل ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ أَمْرٍ يُتَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بَلِيلٍ فَلَعَبَتْ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ)

ترجمہ: ”جو شخص رات کو نماز پڑھنے کا عادی ہو، لیکن (کسی رات) اس پر نیند غالب آجائے تو اس کیلئے اس کی نماز کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اور اس کی نیند اس کیلئے صدقہ ہوتی ہے۔“ [التسائی: ۷۸۳، ابوداؤد: ۱۳۱۳، المؤطا: ۱/۱۷۷-۱۷۸، صحیحہ لابانی]

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَعَبَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ،

كَيْبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَلَافَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ)

ترجمہ: ”جو شخص اپنے بستر پر اس نیت کے ساتھ آئے کہ وہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا، پھر اس پر نیند غالب آگئی یہاں تک کہ اس نے صبح کر لی، تو اس کیلئے اس کی نیت کے مطابق اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی نیند اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے صدقہ ہوتی ہے۔“ [التسائی: ۶۸-۶۹ صحیح البانی]

⑤ بیدار ہوتے وقت نیند کے آثار ختم کرنے کی غرض سے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرے، پھر (بیدار ہونے کی) دعا پڑھے اور اس کے بعد مسواک کر کے یہ دعا پڑھے:

(لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَمُبَحَّانَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ)

ترجمہ: ”اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کیلئے ساری بادشاہت ہے اور اسی کیلئے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ کچھ کرنے کی، اے میرے اللہ! مجھے معاف کر دے۔“

کیونکہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص رات کو بیدار ہو، پھر یہ دعا پڑھے، تو اس کے بعد وہ جو دعا بھی کرتا ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے۔“ [البخاری: ۱۱۵۴]

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نیند سے بیدار ہوئے، پھر نیند کے آثار ختم کرنے کیلئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، پھر آل عمران کی

آخری دس آیات کی تلاوت فرمائی... [مسلم: ۷۶۳]

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنا منہ سواک سے صاف کرتے۔ [بخاری: ۲۳۵، مسلم: ۲۵۴]

اس کے بعد وہ نیند سے بیدار ہونے کے دیگر اذکار پڑھے اور اس طرح وضو کرے جیسا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ [حصن المسلم: ۱۲-۱۶]

۵ رات کی نفل نماز کا آغاز ہلکی پھلکی دو رکعات سے کرے، کیونکہ یہ نبی کریم ﷺ کے قول و فعل سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نماز پڑھنے کی غرض سے کھڑے ہوتے تو اپنی نماز کا آغاز دو ہلکی پھلکی رکعات سے کرتے۔ [مسلم: ۷۶۷]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرُكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب رات کے قیام کیلئے کھڑا ہو تو دو ہلکی پھلکی رکعات سے اپنی نماز کا افتتاح کرے“ [مسلم: ۷۶۸]

۶ نماز تہجد گھر میں پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ اپنے گھر میں ہی تہجد پڑھتے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (... فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ)

ترجمہ: ”لہذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھا کرو کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے“

[البخاری: ۷۳۱، مسلم: ۷۸۱]

⑤ قیام اللیل بغیر انقطاع کے ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ مسلمان چند معلوم رکعات پر ہمیشگی کرے، اگر وہ ہشاش بشاش ہو تو ان میں لمبا قیام کرے، اور اگر اس میں سستی ہو تو ہلکا قیام کرے، اور اگر وہ رکعات اس سے فوت ہو جائیں تو وہ انہیں قضا کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (خُلُّوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُوْنَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا ، وَإِنْ أَحَبَّ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ مَا ذُوْرِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ)

ترجمہ: ”تم اپنی طاقت کے مطابق ہی عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اکتا تا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔“ [البخاری: ۱۹۷۰، مسلم: ۷۸۲۔ واللفظ لہ]
اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا:

(يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فَلَانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ)

ترجمہ: ”اے عبداللہ! تم فلاں آدمی کی طرح نہ بنو کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔“ [البخاری: ۱۱۵۲، مسلم: ۱۱۵۹]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی نماز شروع فرماتے تو اسے ہمیشہ جاری رکھتے، اور جب آپ ﷺ پر نیند غالب آجاتی یا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی جس سے آپ قیام لیل نہ کر پاتے تو دن کے وقت آپ ﷺ بارہ رکعات پڑھ لیتے.... [مسلم: ۷۳۶]

اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا
(مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ نَامَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ)

ترجمہ: ”جو شخص اپنا اور دیا اس کا کچھ حصہ نیند کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، اور اسے نماز اور نمازِ ظہر کے درمیان پڑھ لے تو وہ اس کیلئے ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسا کہ اس سے رات کو پڑھا“ [مسلم: ۷۴۷]

⑤ اگر اس پر اونگھ طاری ہو تو اسے قیام اللیل ترک کر کے سو جانا چاہیے یہاں تک اس سے اونگھ کے آثار ختم ہو جائیں اور وہ ہشاش بشاش ہو جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا نَعِسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَلْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِذَا أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَلْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ)

ترجمہ: ”تم میں سے کسی شخص کو جب حالتِ نماز میں اونگھ آئے تو وہ سو جائے یہ تک کہ اس سے نیند کے آثار ختم ہو جائیں، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص جب حالتِ نماز میں نماز جاری رکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرنا چاہتا ہو لیکن وہ اپنے آپ کو برا کہنا شروع کر دے“۔ [البخاری: ۲۱۲، مسلم: ۷۸۶]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
(إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعَجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَلِدْ يَقُولُ ، فَلْيَضْطَجِعْ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب رات کو قیام کرے، پھر (اونگھ کی وجہ سے)

کی زبان سے قرآن کی قراءت مشکل ہو جائے، اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو وہ لیٹ جائے۔“ [مسلم: ۷۸۷]

④ اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ قیام اللیل کیلئے اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو قیام کرتے، پھر جب وتر پڑھنا چاہتے تو مجھے بھی ارشاد فرماتے:

(قُومِي، فَأُوتِرِي يَا عَائِشَةُ) ”اے عائشہ! اٹھو اور وتر پڑھ لو“

[بخاری: ۹۹۷، مسلم: ۷۴۳]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَقَطَّ امْرَأَتُهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَتَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَتَقَطَّ زَوْجُهَا، فَإِنْ أَتَى نَضَحَ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحمت فرمائے جو رات کو بیدار ہوا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو بیدار ہوئی اور اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے اپنے خاوند کو بھی جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔“

[التسائی: ۱۶۱۰، ابن ماجہ: ۱۳۳۶، ابوداؤد: ۱۳۰۸۔ صحیحہ لألبانی]

اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ وَاقْبَضَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، مُجِبًا مِنَ
الدَّائِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ)

ترجمہ: ”جب ایک شخص رات کو بیدار ہو اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے ، پھر وہ دو رکعات ادا کریں ، تو انہیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والوں اور ذکر کرنے والیوں میں لکھ دیا جاتا ہے“۔ [ابن ماجہ: ۱۳۳۵، ابوداؤد: ۱۳۰۹۔ صحیحہ لابن ابی]۔

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس رات کے وقت آئے ، اور آپ نے فرمایا : (أَلَا تُصَلِّيانِ ؟) ”تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ؟“ میں نے کہا : اے اللہ کے رسول ! ہماری جائیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں ، وہ جب چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا ! میں نے جب یہ بات کہی تو رسول اللہ ﷺ چلے گئے ، اور مجھے کوئی جواب نہ دیا ، اور جب آپ پیٹھ پیچھے رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارا اور فرمایا (وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَوْنَ جَدَلًا) ”انسان اکثر باتوں میں جھگڑا لگاتا ہے“۔ [بخاری: ۱۱۲۷، مسلم: ۷۷۵]

ابن بطالؒ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں قیام اللیل کی اور اس کیلئے اپنے اہل خانہ اور رشتہ داروں کو بیدار کرنے کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ [فتح الباری لابن حجر: ۱۱/۳] اور امام طبریؒ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم ﷺ کو قیام اللیل کی عظیم فضیلت معلوم ہوئی تو آپ ﷺ اپنی صاحبزادی اور اپنے چچا زاد کو ایسے وقت میں پریشان نہ کرے جسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے آرام کیلئے بنایا ہے ، لیکن رسول اللہ ﷺ نے رات کے آرام و سکون پر قیام اللیل کی فضیلت کو ترجیح دی تاکہ وہ دونوں اسے حاصل کر سکیں ، اور ایہ

انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کیا:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طہ: ۱۳۲]

ترجمہ: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور انجام (اہل) تقویٰ ہی کیلئے ہے۔“ [المرجع السابق]

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جب چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا“ یہ بات انہوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے لی ہے: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا لِيَنْسِفَ إِلَيْهِ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الزمر: ۴۲]

ترجمہ: ”اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحمیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرانہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحمیں ایک مقررہ وقت تک کیلئے واپس بھیج دیتا ہے، غور و فکر کرنے والے لوگوں کیلئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔“

اور جہاں تک نبی کریم ﷺ کا اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مارنے کا تعلق ہے تو اس کا سب سے بہتر معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور ان کی طرف سے معذرت نہ کرنے پر ایسا کیا۔

اور اس حدیث میں قیام اللیل کی ترغیب کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنے

ساتھی کو اس کا حکم دے سکتا ہے، اور یہ کہ حاکم وقت کو اور ہر ذمہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنی رعایا اور اپنے ماتحت لوگوں کی خبر گیری کرے، اور ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کا خیال رکھے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ اگر اس کی نصیحت کو قبول نہ کیا جائے یا اس سے ایسی معذرت کر لی جائے جو اسے قبول نہ ہو تو وہ نہ اسے اپنے لئے عار سمجھے اور نہ ہی تشدد اور سختی کرے۔

[شرح مسلم للنووی: ۶/۳۱۱، فتح الباری: ۱۱/۳]

اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ ﷺ گھبراہٹ کی حالت میں بیدار ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا:

(سُبْحَانَ اللَّهِ! مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْغَرَائِبِ! وَمَاذَا أَنْزَلَ مِنَ الْفِتَنِ! أَبْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ. يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ حَتَّى يُصَلِّينَ. رَبُّ كَامِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ)

ترجمہ: ”سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل فرمائے ہیں! اور کتنے فتنے اتارے ہیں! ان حجروں والیوں کو جگا دو۔ یعنی آپ کی ازواج مطہرات کو تا کہ وہ نماز پڑھ لیں۔ دنیا میں لباس پہننے والی کئی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوگی!“

[البخاری: ۱۱۵، ۱۱۲۶، ۶۲۱۸]

الحافظ ابن حجرؒ کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں قیام اللیل کی ترغیب دی گئی ہے، اسے واجب نہیں قرار دیا گیا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بیدار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کیلئے جگانا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب قدرت الہی کی کوئی نشانی ظاہر ہو۔ [فتح الباری: ۱۱/۳]

اور حدیث کے الفاظ ”دنیا میں کئی لباس پہننے والی عورتیں قیامت کے دن برہنہ ہوں گی“ کے بارے میں ابن الاثیرؒ کا کہنا ہے کہ یہ دراصل انسان کے اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال صالحہ سے کنایہ ہے، اور گویا آپ ﷺ یوں فرما رہے ہیں کہ کئی مالدار لوگ جنہوں نے دنیا میں کوئی خیر کام نہیں کیا، وہ روز قیامت فقراء ہوں گے، اور لباس پہننے والے اور عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے کئی لوگ آخرت کے دن برہنہ اور بد حال ہوں گے۔ [جامع لا حول فی احادیث الرسول ﷺ ۶/۶۸]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما رات کو نماز پڑھتے جتنی اللہ چاہتا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے اور فرماتے: اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، پھر یہ آیت تلاوت فرماتے: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طہ: ۱۳۲]

ترجمہ: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، وہ تو ہم خود آپ کو دیتے ہیں، اور انجام (اہل) تقویٰ ہی کیلئے ہے۔“ [الموطا: ۵۔ صحیح لا رتاؤط فی جامع لا حول ۶/۶۹، ولا لبانی فی تحقیق المشکاۃ: ۱۲۴۰]

⑧ نماز تہجد پڑھنے والا شخص حسب طاقت اس میں قرآن مجید کی قراءت کرے، اور غور و فکر کے ساتھ کرے، اور اسے اختیار ہے، چاہے تو اونچی آواز سے کرے اور چاہے تو پست آواز سے کرے، تاہم اگر اونچی آواز سے قراءت کرنا اسے چست رکھنے کا باعث ہو، یا اس کے پاس کوئی ایسا شخص ہو جو اس کی قراءت سن رہا ہو، یا اس سے فائدہ اٹھا رہا

ہو تو پھر قراءت جہرا کرنا افضل ہے، اور اگر اس کے قریب کوئی اور شخص بھی تہجد پڑھ رہا ہو، یا اس کی اونچی آواز سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس حالت میں قراءت سرا (پست آواز کے ساتھ) کرنا افضل ہے، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو وہ جیسے چاہے قراءت کرے۔ [المغنی لابن قدامہ: ۵۶۲/۲]

اور اس بارے میں احادیث موجود ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ ﷺ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میں نے ایک برا ارادہ کر لیا۔ ان سے پوچھا گیا: کس چیز کا ارادہ؟ تو انہوں نے کہا: میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ ﷺ کو چھوڑ دوں۔ [البخاری: ۱۱۳۵، مسلم: ۷۷۳، واللفظ لہ]

اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو آپ نے سورۃ البقرۃ شروع کر دی، میں نے دل میں کہا: شاید آپ سو آیات پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ نے قراءت جاری رکھی، میں نے دل میں کہا: شاید آپ اسے دو رکعات میں مکمل کریں گے، لیکن آپ نے قراءت جاری رکھی، میں نے دل میں کہا: شاید اسے مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ نے اسے ختم کر کے سورۃ النساء شروع کر دی، اور اسے بھی ختم کر دیا، پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی، اور اسے بھی ختم کر دیا، اور آپ ٹھہر ٹھہر کر قراءت کر رہے تھے، جب کسی تسبیح والی آیت سے گزرتے تو وہاں تسبیح پڑھتے، اور جب سوال والی آیت سے گزرتے تو وہاں سوال کرتے، اور جب پناہ والی آیت سے گزرتے تو وہاں پناہ طلب کرتے... [مسلم: ۷۷۲]

اور حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ (نماز میں) کھڑا ہوا، آپ نے سورۃ البقرۃ کی قراءت فرمائی، اور آپ جب رحمت والی آیت سے گزرتے تو رک جاتے اور (رحمت کا) سوال کرتے، اور جب عذاب والی آیت سے گزرتے تو رک کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے، پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا، اور وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا قیام تھا، آپ رکوع میں یہ دعا بار بار پڑھتے رہے: (سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ)، پھر آپ ﷺ نے قیام ہی کے بقدر سجدہ کیا، اور سجدے میں بھی یہی دعا پڑھتے رہے، پھر آپ دوسری رکعت کیلئے کھڑے ہوئے تو اس میں سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی، اس کے بعد ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھتے رہے۔ [ابوداؤد: ۸۷۳، النسائی: ۱۰۴۹۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے چار رکعات پڑھیں، اور ان میں سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدۃ اور سورۃ الانعام کو پڑھا۔ [ابوداؤد: ۷۷۴۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے بتایا کہ وہ ایک ہی رکعت میں پوری مفصل سورتوں کو پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا: تم اشعار کی طرح قرآن کو انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہو! میں ان ملتی جلتی سورتوں کو جانتا ہوں جن کو ملا کر نبی کریم ﷺ پڑھا کرتے تھے، پھر انہوں نے بیس سورتیں ذکر کیں۔ [بخاری: ۷۷۵، مسلم: ۸۲۲]

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ ان سورتوں میں سے دو دو سورتیں ملا کر

ایک رکعت میں پڑھتے تھے۔ [البخاری: ۴۹۹۶]

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: تم قرآن مجید کو شعروں کی طرح انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہو! بے شک کئی لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، اور جب قرآن دل میں اتر جائے اور اس میں راح ہو جائے تو وہ اس کیلئے نفع بخش ہوتا ہے، اور نماز کا سب سے افضل حصہ رکوع و سجود والا حصہ ہے... [مسلم: ۸۲۲]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک ہی آیت کو پوری رات قیام کے دوران پڑھتے رہے۔ [الترمذی: ۴۳۸۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں صبح ہونے تک ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے اور وہ ہے: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [ابن ماجہ: ۱۳۵۰۔ حسنہ لا لبانی]

اور یہ تمام احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ رات کی نفل نماز میں اپنی جسمانی اور ایمانی طاقت کے مطابق اور جتنی اللہ تعالیٰ بندے کو توفیق دے، اسے مختلف سورتوں کو پڑھنا چاہیے۔

اور رہی یہ بات کہ قیام اللیل میں قراءت جہرا ہو یا سرا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز میں قراءت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ جہرا پڑھتے یا سرا؟ تو انہوں نے جواب دیا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عمل کیا کرتے تھے، کبھی جہرا اور کبھی سرا۔ [احمد: ۶/۱۴۹، ابوداؤد: ۱۴۳۷، الترمذی: ۲۹۲۴، التسانی: ۱۶۶۲، ابن ماجہ: ۱۳۵۴۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا: ”اے ابوبکر! آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پاس سے گذرا، اور آپ کی آواز پست تھی!“

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا بس اسی کو سنا رہا تھا!

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِذْفَعْ قَلِيلًا) ”اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لیا کرو“ اور آپ ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: میں آپ کے پاس سے گذرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ کی آواز اونچی تھی!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا!

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (إِخْفِضْ قَلِيلًا) ”اپنی آواز ذرا پست رکھا کرو“۔ [ابوداؤد: ۱۳۲۹، الترمذی: ۴۳۷۰۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو رات کی نماز میں قراءت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا:

(يَرْحَمُهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرْنِي كَذًّا وَكَذَا آيَةٌ كُنْتُ أَسْقَطُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذًّا وَكَذَا)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے کئی آیات یاد کرا دی ہیں جنہیں میں فلاں فلاں سورت سے بھول چکا تھا“۔

اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مسجد میں ایک آدمی کی قراءت سنی تو

آپ نے فرمایا: (رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَقَدْ أَذْكَرْنِي آيَةُ كُنْتُ أُتْسِيهَا)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے ایک آیت یاد کرا دی ہے جو کہ میں بھول چکا تھا“۔ [البخاری: ۵۰۳۷، مسلم: ۷۸۸]

اور قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب حافظ قرآن دن اور رات کی نماز میں اس کی قراءت کرے تو وہ اسے یاد رکھتا ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّمَا مَنَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَنَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أُمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ)

ترجمہ: ”بے شک حافظ قرآن کی مثال باندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، اگر (اس کا مالک) اس کا خیال رکھے تو اسے اپنے قابو میں رکھتا ہے، اور اگر اسے چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے“۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے: (وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ لِقَرَاءَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذِكْرَهُ ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ)

ترجمہ: ”اور جب حافظ قرآن قرآن مجید کو برابر دن رات پڑھتا رہے تو وہ اسے یاد رکھتا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ قیام نہ کرے تو وہ اسے بھول جاتا ہے“۔

[البخاری: ۵۰۳۱، مسلم: ۷۸۹]

④ قیام اللیل کبھی کبھی باجماعت پڑھنا جائز ہے

کیونکہ نبی کریم ﷺ نے اسے باجماعت بھی پڑھا ہے اور اکیلے بھی، تاہم آپ ﷺ کی اکثر و بیشتر عادت یہ تھی کہ آپ نفل نماز اکیلے ہی پڑھتے تھے، اور جن صحابہ کرام

ﷺ کا آپ کے ساتھ باجماعت قیام کرنا ثابت ہے ان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ اور ایک یتیم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا (حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ) شامل ہیں جنہوں نے مختلف مواقع پر نفل نماز کم از کم ایک ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ باجماعت پڑھی، اور ان کے بارے میں تمام احادیث اس رسالے میں پہلے گزر چکی ہیں، اسی طرح حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے نفل نماز پڑھائی۔ [البخاری: ۱۱۸۶، مسلم: ۳۳]۔

اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں اپنے کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نفل نماز باجماعت پڑھائی۔ [المغنی ۲/۵۶۷] تاہم اسے دائمی سنت بنانا درست نہیں ہے، کبھی کبھار نفل نماز باجماعت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، سوائے نماز تراویح کے کہ جسے ہمیشہ باجماعت پڑھنا سنت ہے۔ [الاحتیارات الفقہیہ لابن تیمیہ: ۹۸]

⑤ نماز تہجد کا اختتام نماز وتر کے ساتھ کرے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَا)

ترجمہ: ”تم رات کی آخری نماز وتر بناؤ“۔

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ

(مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتَرَا) (قَبْلَ الصُّبْحِ) فَإِنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ

یعنی ”جو شخص رات کو نفل نماز پڑھے وہ اس کے آخر میں (صبح ہونے سے پہلے) نماز وتر پڑھے، کیونکہ رسول اللہ ﷺ اس کا حکم دیا کرتے تھے۔“
[البخاری: ۹۹۸، مسلم: ۷۵۱]

⑩ اپنی نیند اور اپنے قیام دونوں پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طلبگار ہو
ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے آپس میں اعمال صالحہ کا مذاکرہ کیا، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے عبد اللہ (ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ) کا نام! آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں ہمیشہ دن رات پڑھتا رہتا ہوں، اور اے معاذ! آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں رات کے ابتدائی حصے میں سوتا ہوں، پھر بیدار ہو کر قرآن پڑھتا ہوں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور یوں میں اپنی نیند پر بھی اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتا ہوں اور اپنے قیام پر بھی۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، اپنی سواری پر ہر حال میں اور دن اور رات میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں، اس پر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور یوں میں نیند اور قیام دونوں پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ [البخاری: ۴۳۴۱، مسلم: ۷۳۳] حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں:

اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آرام پر بھی اسی طرح ثواب کے طلبگار تھے جیسا کہ تھکاوٹ پر طلبگار تھے، کیونکہ اگر آرام اس نیت سے کیا جائے کہ تاکہ عبادت آسانی

سے کی جاسکے، تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ [فتح الباری: ۶۲/۸]

اور میں نے امام ابن بازؒ سے سنا تھا کہ اس حدیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت طیبہ کا ذکر ہے، اور یہ کہ وہ آپس میں عبادات کے متعلق مذاکرہ کرتے تھے، اور نیند اور قیام دونوں پر ثواب کے طلبگار تھے، لہذا مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے اوقات کو منظم کرے، کچھ وقت قرآن کیلئے، اور کچھ وقت اپنے دیگر امور کیلئے، اور کچھ وقت اپنے گھر والوں کیلئے خاص کرے.... [یہ بات انہوں نے ریاض شہر کی مسجد (الجامع الکبیر) میں مورخہ ۲۲/۷/۱۴۱۶ بروز جمعرات کی صبح کو صحیح بخاری کی حدیث ۴۳۴۱ کی شرح کے دوران ذکر کی]

⑤ قیام اللیل میں کثرتِ رکوع و سجود کے ساتھ لمبا قیام کرنا افضل ہے، بشرطیکہ اپنی طاقت کے مطابق ہو اور اکتائے بغیر ہو، جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(اَفْضَلُ الصَّلَاةِ طَوْلُ الْقُنُوتِ)

”بہترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو“۔ [مسلم: ۷۵۶]

اس حدیث میں (الْقُنُوت) کا ذکر ہے اور اس کے کئی معانی ہیں، مثلاً: اطاعت، خشوع و خضوع، دعا، نماز، عبادت، قیام، خاموشی، سکون وغیرہ۔ [النہلیۃ فی غریب الحدیث ولائہ: ۱۱۱/۴، مشارق الأنوار: ۱۸۶/۲، اور حافظ ابن حجر نے ابن العربی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے القنوت کے دس معانی ذکر کئے ہیں۔ فتح الباری: ۴۹۱/۲]

اور امام نوویؒ کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق تمام علماء کے نزدیک اس حدیث میں قنوت سے مراد قیام ہے۔ [شرح مسلم: ۲۸۱/۶]

اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کونسا ہے، یا یہ سوال کیا کہ ایسا عمل بتائیں جو انہیں جنت میں داخل کر دے، تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے یہی سوال رسول اللہ ﷺ سے کیا تھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا:

(عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ)

ترجمہ: ”تم زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ایک سجدہ کرو گے تو وہ اس کے بدلے میں تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا“ [مسلم: ۴۸۸]

اور حضرت ربیعہ بن کعب الأسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس رات گزارتا تھا، ایک رات میں آپ کے پاس وضو کا پانی اور آپ کی ضرورت کی اشیاء لایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سوال کرو“ میں نے کہا: میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ داخل ہوں! آپ ﷺ نے فرمایا: کوڑا اور سوال؟ میں نے کہا: بس یہی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

(فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ)

”تم کثرتِ سجود کے ذریعے اپنے نفس پر میری مدد کرو“ [مسلم: ۴۸۹]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)

ترجمہ: ”بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ

حالتِ سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا تم سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو“ [مسلم: ۴۸۲]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
**(أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُمُوا فِيهِ الرَّبُّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِلُوا فِيهِ
 اللَّهُ ، فَقَمِنَ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)**

ترجمہ: ”تم رکوع میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کیا کرو، اور سجدے میں دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو، کیونکہ عین قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے“۔ [مسلم: ۴۷۹]
 اور علماء کرام رحمہم اللہ کے درمیان اس مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ سجدے کم اور قیام لمبا کرنا افضل ہے یا سجدے زیادہ اور قیام مختصر کرنا افضل ہے؟ چنانچہ ان میں سے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ لمبے قیام کی بہ نسبت رکوع و سجود زیادہ کرنا افضل ہے، اور یہ امام احمدؒ کے شاگردوں کا موقف ہے، اور ان کی دلیل سجدے کی فضیلت میں وارد مذکورہ احادیث ہیں۔

جبکہ کئی علماء کا کہنا ہے کہ دونوں برابر ہیں۔

اور بعض اہل علم نے پہلی رائے کو اختیار کیا ہے، یعنی یہ کہ کثرت رکوع و سجود کی بہ نسبت لمبا قیام کرنا افضل ہے، اور ان کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث ہے جس میں بہترین نماز اس نماز کو قرار دیا گیا ہے جس میں لمبا قیام ہو۔

[الغنی لابن قدامہ: ۵۶۴/۲، فتاویٰ ابن تیمیہ: ۶۹/۲۳، نیل الأوطار: ۲/۲۷۰]

اور امام طبرنیؒ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿هُوَ قَائِمٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: ۹]

ترجمہ: ”کیا (یہ بہتر ہے) یا جو شخص رات کے اوقات سجدہ اور قیام کی حالت میں عبادت کرتے ہوئے گزارتا ہے“۔

کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہاں (قانت) سے مراد نماز میں بحالت قیام قراءت قرآن کرنا ہے... جبکہ کئی علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد اطاعت ہے۔

[جامع البیان: ۱/۲۶۷]

اور حافظ ابن کثیرؒ کہتے ہیں: ﴿أَمَّنْهُوَ قَائِمٌ آتَاءَ اللَّيْلِ مَسْجِدًا وَقَائِمًا﴾ [الزمر: ۹] یعنی حالت سجدہ اور حالت قیام میں، اور اسی آیت سے بعض اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ قنوت کا معنی صرف قیام ہی نہیں، بلکہ اس کا ایک معنی نماز میں خشوع و خضوع بھی ہے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (قانت) بمعنی مطیع ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا فرمانبردار۔ [تفسیر ابن کثیر: ۴/۳۸]

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ رکوع و سجود اور قیام میں نماز لمبی کرنا اس سے بہتر ہے کہ مختصر رکوع و سجود اور قیام کے ساتھ زیادہ رکعات پڑھی جائیں۔ [فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲۳/۷۱] اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جنس سجدہ بارہ وجوہات کی بناء پر جنس قیام سے افضل ہے]

اور میں نے امام ابن بازؒ سے سنا تھا، انہوں نے فرمایا:

”اہل علم کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا کم سجدے اور لمبا قیام افضل ہے، یا زیادہ سجدے اور مختصر قیام؟ چنانچہ ان میں سے بعض نے پہلی رائے اور بعض نے دوسری رائے کو اختیار کیا ہے، اور جہاں تک نبی کریم ﷺ کی نماز کا تعلق ہے تو آپ کی نماز معتدل تھی، اگر آپ لمبا قیام فرماتے تو رکوع و سجود بھی لمبا فرماتے، اور اگر آپ مختصر قیام فرماتے تو رکوع و سجود بھی مختصر فرماتے، اور یہی سب سے افضل ہے۔“

اور انہوں نے ذکر کیا کہ ”سب سے افضل یہ ہے کہ مسلمان اپنی استطاعت کے

مطابق نماز تہجد پڑھے، تاکہ اس میں اکتاہٹ پیدا نہ ہو، لہذا اگر اسے لمبا قیام کرنے میں راحت محسوس ہو تو وہ لمبا قیام کر لے، اور اگر اسے مختصر قیام کرنے میں راحت محسوس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ اس طرح اسے زیادہ خشوع حاصل ہوگا، اور اسے عبادت کی لذت محسوس ہوگی، تو وہ مختصر قیام کر لے، اور سجدے جس قدر زیادہ ہونگے اتنا ہی بہتر ہوگا، لہذا اگر مسلمان لمبا قیام اور زیادہ رکوع و سجود کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے حق میں یہی افضل ہے کہ وہ دونوں امور کو جمع کر لے، اور یہی معتدل نماز ہے کہ اگر وہ لمبا قیام کرے تو رکوع و سجود بھی لمبے کرے، اور اگر وہ مختصر قیام کرے تو رکوع و سجود بھی مختصر کرے۔

[یہ بات انہوں نے منشی لاخبار کی حدیث ۱۲۶۱ کی شرح کرتے ہوئے ذکر کی]

اور نبی کریم ﷺ عبادت میں انتہائی مشقت اٹھاتے تھے، اور انہیں اس کی لذت محسوس ہوتی تھی، اور آپ بعض اوقات اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹنے لگتے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے جس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک ہی رکعت میں سورۃ البقرۃ، سورۃ النساء اور سورۃ آل عمران کی تلاوت فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث (۷۷۲) پہلے گزر چکی ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے چار رکعات میں سورۃ البقرۃ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدۃ اور سورۃ الانعام کی قراءت فرمائی۔

[ابوداؤد: ۸۷۳، الترمذی: ۱۰۴۹۔ یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ رات کو گیارہ رکعات پڑھتے تھے، اور آپ کا ایک سجدہ پچاس آیات کی قراءت کے برابر ہوتا۔

[البخاری: ۹۹۴]

اور آپ ﷺ نماز تہجد سے اکتانے کی بجائے اس سے راحت محسوس فرماتے تھے، اور نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(حُبِّ إِلَيَّ النِّسَاءِ وَالطَّيِّبُ ، وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)

ترجمہ: ”میرے دل میں عورتوں کی اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے“ [احمد: ۱۲۸/۳، الترمذی: ۳۹۴۰۔ صحیحہ الألبانی] اور سالم بن ابی الجعد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: کاش میں نماز پڑھتا اور مجھے راحت محسوس ہوتی، تو لوگوں نے اسے گویا برا بھلا کہا، تو اس نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا تھا، آپ نے فرمایا:

(يَا بِلَالُ أَقِمِ الصَّلَاةَ ، أَوْحْنَا بِهَا) ”اے بلال! نماز کی اقامت کہو اور

ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ“۔ [ابوداؤد: ۴۹۸۵، ۴۹۸۶۔ صحیحہ الألبانی]

تاہم امت کیلئے نبی کریم ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ

(خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)

یعنی ”تم اپنی طاقت کے مطابق ہی عمل کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں

اکتا تا جب تک تم خود نہ اکتا جاؤ“۔ [البخاری: ۱۹۷۰، مسلم: ۷۸۲]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدُّوا وَقَارِبُوا ،

وَأَبْسِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُلُوءِ وَالرُّوحَةِ وَحْيٍ مِنَ الدَّلْجَةِ ، وَالْقَصْدُ

الْقَصْدُ تَبْلُغُوا

ترجمہ: ”دین (اسلام) یقیناً آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، لہذا تم (افراط و تفریط سے بچتے ہوئے) درمیانی راہ اختیار کرو، قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ، اور صبح، شام اور کچھ رات کے حصے میں عبادت کر کے مدد طلب کرو، اور میانہ روی اور اعتدال سے کام لو، تم یقیناً منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔“

[البخاری: ۳۹، ۶۴۶۳، مسلم: ۲۸۱۶]

اور میں نے امام ابن بازؒ سے سنا تھا، انہوں نے کہا: ”اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے حق میں بہتر یہ ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں اور ایسی طوالت سے بچیں جو ہمارے لئے مشقت کا باعث بنے تاکہ ہمارے اندر اکتاہٹ اور عبادت سے سستی پیدا نہ ہو، لہذا مومن کو نماز تہجد تو پڑھنی چاہیے اور عبادت میں محنت بھی کرنی چاہیے لیکن بغیر کسی مشقت کے، اور اعتدال کی راہ اپناتے ہوئے تاکہ وہ عبادت سے اکتانہ جائے۔“

[یہ بات انہوں نے مفتی لاٰخبار کی احادیث (۱۲۵۷-۱۲۶۲) کی شرح کرتے ہوئے ذکر کی]

④ قیام اللیل کیلئے معاون اسباب

① فضائلِ قیام اللیل کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام کرنے والوں کے

اونچے مقام و مرتبہ کی پہچان

جی ہاں! قیام اللیل کے عظیم فضائل ذہن نشین کئے جائیں اور یہ بات اپنے سامنے رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام کرنے والوں کیلئے دنیا و آخرت میں سعادت مندی رکھی ہے، اور اس نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان کے ایمانِ کامل کی شہادت دی ہے، اور یہ کہ وہ اور قیام نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ کہ وہی صحیح معنوں میں اہل علم ہیں، اور قیام اللیل جنت کے بالا خانوں میں درجات کی بلندی اور جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب ہے، اور قیام اللیل اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور مومن کا شرف اس میں ہے کہ وہ قیام اللیل کرے، اور صرف وہ بندہ مومن قابلِ رشک ہے جو قیام کرتا ہو..... یہ تمام فضائل جن کے دلائل گذشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں، اگر ہر وقت مدِ نظر رہیں تو مسلمان کے دل میں قیام اللیل کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور وہ ان کے حصول کیلئے کوشاں رہتا ہے۔

② شیطان کے مکر کو پہچانا کہ وہ قیام اللیل سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ قیام اللیل بالکل نہ کرنے سے ہمیں ڈرایا گیا ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات بھر سویا رہتا ہے، تو آپ نے فرمایا:

(ذَٰكَ رَجُلٌ بَالِ الشَّيْطَانِ فِي أَذْيِهِ) أَوْ قَالَ (فِي أَذْيِهِ)

یعنی ”وہ ایسا شخص ہے جس کے کان (یا کانوں) میں شیطان پیشاپ کر کے چلا جاتا

ہے“ [البخاری: ۱۱۳۳، ۳۲۷۰، مسلم: ۷۷۴]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يُعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَائِلِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ،
يَضْرِبُ عَلَى مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ
فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ
عُقْدَتُهُ ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ
كَسَلَانَ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر تین گرہیں
لگا دیتا ہے، اور ہر گرہ کی جگہ پر مارتے ہوئے کہتا ہے: لمبی رات ہے، مزے سے سوئے
رہو، پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر اٹھ کر
وضو کرے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز بھی پڑھے تو تمام گرہیں کھل جاتی
ہیں، پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ وہ ہشاش بشاش اور خوش مزاج ہوتا ہے، ورنہ بد
مزاج اور ست ہوتا ہے“ [البخاری: ۱۱۳۳، مسلم: ۷۷۶]

اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے
فرمایا: (يَا عَبْدَ اللَّهِ ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ
اللَّيْلِ)

ترجمہ: ”اے عبد اللہ! تم فلاں آدمی کی طرح نہ بنو کہ وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس
نے قیام اللیل چھوڑ دیا“ [البخاری: ۱۱۵۲، مسلم: ۱۱۵۹]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا جسے

انہوں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ذکر کیا، اور انہوں نے وہ خواب رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیان کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا: (يَعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ) یعنی ”عبداللہ اچھا آدمی ہے، اگر وہ رات کو نماز پڑھتا“ اس کے بعد وہ رات کا کم حصہ سوتے تھے (اور زیادہ حصہ نماز تہجد میں گزارتے تھے)۔ [البخاری: ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، مسلم: ۲۳۷۹]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ يَغْضُ كُلَّ جَفْظَرِيٍّ، جَوَاطِ، مَخَابٍ بِالسَّوَاقِ، جِيفَةٍ بِاللَّيْلِ جِمَارٍ بِالنَّهَارِ، عَالِمٍ بِأَمْرِ الدُّنْيَا جَاهِلٍ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ) ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جو انتہائی سخت مزاج، بہت زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردہ پڑا رہتا ہو اور دن کو لگدھاریاں رہتا ہو، دنیاوی معاملات کو جاننے والا اور اخروی امور سے ناواقف ہو“۔

[ابن حبان - الإحسان - ۷۲ صحیح لأرنأوط فی تحقیق ابن حبان: ۲۷۴/۱، والالبانی فی الصحیحہ: ۱۹۵ صحیح الترغیب والترہیب: ۶۳۵]

۵) موت کو یاد کرنا اور کم امیدیں رکھنا، کیونکہ یہ چیز انسان کو عمل صالح پر مجبور کرتی ہے اور اس کی سستی ختم کر دیتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا: (مَنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ غَابِرٌ سَبِيلٍ) یعنی ”دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح رہو“

اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے: (إِذَا أُمْسِيَتْ فَلَا تَنْتَظِرِ الصُّبْحَ،

وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحِّكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ)

ترجمہ: ”جب تم شام کرلو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرلو تو شام کا انتظار مت کرو، اور اپنی صحت کے دوران اپنی بیماری کے دنوں کیلئے اور اپنی زندگی کے دوران اپنی موت کیلئے عمل کرلو“ [بخاری: ۶۴۱۶]

امام بخاریؒ نے کیا خوب کہا ہے:

اغتم فی الفراغ فضل رکوع فعسى أن يكون موتك بفتة كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة لفتة

ترجمہ: ”فراغت کے اوقات میں رکوع کی فضیلت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ عین ممکن ہے کہ تمہاری موت اچانک آجائے، اور میں نے کتنے مہتمد دیکھے ہیں جن کی مہتمد جانیں اچانک رخصت ہو گئیں“ [ہدی الساری لابن حجر: ۴۸۱]

اور جب امام بخاریؒ کو امام عبداللہ بن عبدالرحمن الدارمی الحافظؒ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے کہا:

إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أباك أفعج

ترجمہ: ”اگر آپ زندہ رہتے تو تمام احباب کے مدے آپ کو سہنے پڑتے، اور تمہاری بقاء اللہ نہ کرے اور بھی مدے کا باعث ہے۔“

اور ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

صلاک نور والعباد رقود ونومک ضد للصلاة عنید
وعمرک غنم إن عقلت ومهلة یسیر ویفنی دایما ویبید

ترجمہ: ”تمہاری نماز نور ہے اور بندے سوئے ہوئے ہیں، اور تمہاری نیند نماز کی مخالف ہے، اور اگر تم سمجھو تو تمہاری عمر غنیمت اور تمہارے لئے مہلت ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔“

[قیام اللیل۔ محمد بن نصر: ۴۲، التلحیح و قیام اللیل۔ ابن ابی الدنیا: ۳۲۹]

اور بعض صلحاء امت کا کہنا ہے:

عجبت من جسم ومن صفة	ومن فتى نام إلى الفجر
فالموت لا تؤمن خطفاته	في ظلم الليل إذا يسرى
من بين منقول إلى حفرة	يفترش الأعمال في القبر
وبين ماخوذ على غرة	بات طويل الكبر والفجر
عاجله الموت على غفلة	فمات محسورا إلى الحشر

ترجمہ: ”مجھے حیرت ہوتی ہے کسی نو جوان کے جسم پر، اور اس کی صحت پر جو کہ فجر تک سویا رہ جائے، کیونکہ رات جب شروع ہوتی ہے تو اس کے اندھیروں میں موت کے اچانک آجانے سے وہ محفوظ نہیں ہوتا، کتنے لوگوں کو قبر کے گڑھے کی طرف منتقل کر دیا گیا جہاں وہ اپنے اعمال ہی کو بستر بناتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی اچانک پکڑ کی گئی، اور وہ رات بھر تکبر اور فخر کی حالت میں رہتے تھے، موت نے انہیں غفلت کی حالت میں آلیا، اور وہ حشر تک حسرت و ندامت کی حالت میں مر گئے“ [قیام اللیل۔ محمد بن نصر: ۹۲، التلحیح و قیام اللیل۔ ابن ابی الدنیا: ۳۳]

⑤ انسان صحت اور فراغت کو غنیمت تصور کرے، تاکہ وہ صحت اور فراغت کے دنوں میں جو عمل کرے وہ اس کیلئے بیماری اور سفر کے دنوں میں بھی لکھا جائے، جیسا کہ حضرت

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا) [بخاری: ۲۹۹۶]

ترجمہ: ”جب ایک بندہ بیمار ہو جائے یا سفر پر روانہ ہو جائے تو اس کیلئے اس کا عمل اسی طرح لکھا جاتا ہے جیسا کہ وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا“۔

لہذا اعتقاد کو چاہیے کہ وہ یہ عظیم فضیلت فوت نہ ہونے دے، اور صحت، فراغت اور اقامت کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، تاکہ جب وہ مشغول ہو جائے یا (بیماری کی بناء پر) عاجز آجائے تو اس کیلئے وہ عبادت بدستور لکھی جاتی رہے، اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يُعْمَتَانِ مَفْبُوتٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصَّحَّةُ وَالْفَرَاعُ)

ترجمہ: ”دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت سارے لوگ خسارے میں رہتے ہیں:

صحت اور فراغت“ [بخاری: ۶۴۱۲]

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: (اَعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : حَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ)

ترجمہ: ”پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، دولت مندی کو غربت سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے“۔ [الحاکم: ۳۰۶/۴۔ صحیحہ ووافقہ الذہبی، وابن المبارک فی الزہد من حدیث عمرو بن میمون مرسلًا: ۱۰۴/۱: برقم: ۲، صحیحہ الحافظ ابن حجر فی الفتح: ۱۱/

۲۳۵، صحیح البانی فی صحیح الجامع: ۱۰۸۸]

⑤ رات کو جلدی سونے کی کوشش کرے، تاکہ نیند پوری کرنے کے بعد اسے قوت اور نشاط حاصل ہو اور اسے اس کے ساتھ قیام اللیل اور نماز فجر کیلئے مدد مل سکے۔
حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند کرتے تھے۔ [البخاری: ۵۶۸، مسلم: ۶۳۷]

⑥ آداب نیند کا لحاظ کرنا، اور وہ یہ ہیں:

وہ با وضو ہو کر سوائے، اور اگر تحیۃ الوضو کی دو رکعات بھی پڑھ لے تو اور بہتر ہے، اس کے بعد سونے کے اذکار پڑھے، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع کر کے آخری تین سورتیں پڑھے اور ان میں پھونک مار کر جہاں تک ہو سکے اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لے، اپنے سر اور چہرے سے شروع کرے اور اپنے جسم کے سامنے والے حصے پر انہیں پھیر لے، اور یہ عمل تین مرتبہ کرے، پھر آیۃ الکرسی اور سورۃ البقرۃ کی آخری دو آیات پڑھے، اور نیند کے باقی اذکار مکمل کرے۔ [حسن المسلم للمؤلف: ۶۸-۷۸]

یہ اذکار اسے قیام اللیل کی خاطر بیدار ہونے کیلئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، نیز اس کے علاوہ وہ اپنے قریب ٹائم پیس بھی رکھ لے، یا اپنے گھر والوں، یا رشتہ داروں، یا پڑوسیوں، یا اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو تاکید کر دے کہ وہ اسے جگا دیں۔

④ قیام اللیل کیلئے معاون دیگر اسباب کو اختیار کرنا، مثلاً یہ کہ وہ کم کھائے، دن کے وقت اپنے آپ کو بے فائدہ کاموں میں مت تھکائے، اور اپنے اوقات کو نفع بخش کاموں کیلئے منظم کرے، اور دن کے وقت قیلولہ کرنا نہ چھوڑے کیونکہ قیلولہ قیام اللیل کیلئے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور گناہوں سے اجتناب کرے، کیونکہ امام سفیان ثوریؒ

سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا:

”میں ایک گناہ کرنے کی بناء پر پانچ ماہ تک قیام اللیل سے محروم رہا“

لہذا گناہوں کی وجہ سے بندہ بہت ساری غلیچوں سے محروم ہو جاتا ہے، اور قیام اللیل کے لئے سب سے بڑا معاون سبب یہ ہے کہ انسان کا دل مسلمانوں کے متعلق (بغض، کینہ اور حسد وغیرہ) سے، اور اس کا دامن بدعات سے پاک ہو، اور وہ دنیا کے فضول کاموں سے اعراض کرنے والا ہو، اور تمام اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس پر مضبوط ایمان ہے، جو کہ اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر اپنے رب تعالیٰ سے سرگوشی کرے جو کہ اس کے قریب ہوتا ہے اور اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہی چیز اسے قیام اللیل کو لمبا کرنے پر بھی آمادہ کرتی ہے۔

[مختصر منہاج القاصدین لابن قدامہ: ۶۷-۶۸]

اور صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ)

ترجمہ: ”بے شک ہر رات کو ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں کوئی بندہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی ضرور عطا کرتا ہے۔“ [مسلم: ۷۵۷]

(۲) عمومی نفل نماز کی دوسری قسم دن اور رات کی عام نفل نماز ہے مسلمان دن اور رات میں 'ممنوعہ اوقات کو چھوڑ کر' جب چاہے عام نفل نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کی نماز دو دو رکعات کی شکل میں ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى....)

یعنی "دن اور رات کی نماز دو دو رکعات کی شکل میں ہے..."

[التسائی: ۱۱۶۶، ابوداؤد: ۱۲۹۵، ابن ماجہ: ۱۳۲۲۔ صحیحہ لألبانی]

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدہ: ۱۶]

ترجمہ: "ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے وہ اس سے خرچ کرتے ہیں۔" کے متعلق کہتے ہیں: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے رہتے تھے۔

اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیام اللیل ہے۔ [ابوداؤد: ۱۳۲۱، الترمذی: ۳۱۹۶۔ صحیحہ لألبانی]

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ☆ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

[الذاریات: ۱۸، ۱۷]

ترجمہ: ”رات کو کم سو یا کرتے تھے، اور سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔“
 کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھتے تھے۔ [ابوداؤد: ۱۳۲۲۔ صحیحہ لا لبانی]

اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں برابر نماز پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا فرماتے۔
 [الترمذی: ۶۰۴۔ صحیحہ لا لبانی]

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کی والدہ نے ان سے پوچھا: تم نبی کریم ﷺ سے کب ملے تھے؟

میں نے کہا: میں کافی عرصے سے انہیں نہیں مل سکا، یہ سن کر وہ ناراض ہو گئیں، تو میں نے کہا: مجھے اجازت دیں۔ میں آپ ﷺ کے پاس جاتا ہوں، نماز مغرب ان کے ساتھ ادا کرونگا، پھر ان سے التجا کرونگا کہ وہ میرے لئے اور آپ کیلئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا فرمائیں، چنانچہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا، آپ کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، پھر آپ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ نماز عشاء کا وقت ہو گیا، آپ ﷺ نے نماز عشاء پڑھائی اور جلدی سے گھر کو جانے لگے، میں بھی آپ کے پیچھے چل دیا، آپ نے میری آواز سنی تو فرمایا: یہ کون حذیفہ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، تو آپ نے فرمایا:

(مَا حَاجَتَكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِأُمَّكَ ؟)

”تمہیں کیا کام ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

”یہ دیکھو، ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج رات سے قبل کبھی زمین پر نازل نہیں

ہوا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ مجھے سلام کرے، اور مجھے اس بات کی خوشخبری سنائے کہ حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہا) اہل جنت کی خواتین کی سردار، اور حضرت حسن (رضی اللہ عنہ) اور حضرت حسین (رضی اللہ عنہ) اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہونگے۔“

[احمد: ۴۰۴/۵، الترمذی: ۳۷۸۱، النسائی فی الکبری: ۳۸۰، ابن خزیمہ ۱۱۹۴۔ صحیح]

للألبانی و احمد شاکر]

چوتھی قسم: نماز نفل کی چوتھی قسم وہ نمازیں ہیں جو کسی سبب کی بناء پر مشروع کی گئیں ہیں۔

(۱) تحیۃ المسجد

صحیح مذہب کے مطابق جب بھی کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کیلئے تحیۃ المسجد کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حضرت ابوقحادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكُعْ رُكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُجْلِسَ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعتیں پڑھے“

اور دوسری روایت میں فرمایا:

(إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يُجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رُكْعَتَيْنِ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب بھی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھے“۔ [البخاری: ۴۴۴، مسلم: ۷۱۴]

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ پر میرا کچھ قرض تھا، تو آپ نے مجھے وہ ادا فرمایا اور کچھ مال زیادہ بھی عنایت فرمایا، اور میں آپ کے پاس مسجد میں گیا تو آپ نے فرمایا:

(صَلِّ رَكْعَتَيْنِ) ”دو رکعتیں پڑھ لو“ [مسلم: ۷۱۵]

اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ:

(دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فَقَالَ: صَلَّيْتُ؟

قَالَ: لَا، قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)

یعنی ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، اس وقت نبی کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: نہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو اور دو رکعت نماز پڑھو۔ [البخاری: ۹۳۱، مسلم: ۸۷۵]

وفی رواية لمسلم:

(جَاءَ سُلَيْكُ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ،

فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُلَيْكُ ائْتِنِي، فَأَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزَ فِيهِمَا، ثُمَّ

قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ،

وَلْيَتَجَوَّزَ فِيهِمَا)

یعنی حضرت سلیم الغطفانی جمعہ کے روز اس وقت آئے جب رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ آکر بیٹھ گئے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے سلیم! کھڑے ہو جاؤ، اور دو ہلکی ہلکی رکعات ادا کرو، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اس وقت آئے جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو

تو وہ دو رکعت نماز ادا کرے، اور انہیں ہلکا پھلکا پڑھے“ [مسلم: ۸۷۵]

اور تحیۃ المسجد کا حکم دینا حقیقت میں وجوب کا فائدہ دیتا ہے، اور اس کی ادائیگی سے قبل مسجد میں بیٹھنے سے منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چھوڑنا حرام ہے، اور اہل علم کے مابین اس کے واجب ہونے یا سنت ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ تحیۃ المسجد سنت مؤکدہ ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے، امام نوویؒ کہتے ہیں:

”اس حدیث میں تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں پڑھنے کا استحباب ہے، اور اس کے سنت ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ تحیۃ المسجد ہر وقت مستحب ہے“ [شرح مسلم للنووی: ۲۳۳/۵، نیز دیکھئے: نیل الأوطار للشوکانی: ۲/۲۶۰]

(۲) سفر سے واپسی پر مسجد میں دو رکعتیں پڑھنا

مسلمان کو چاہیے کہ وہ سفر سے واپسی پر اپنے گھر جانے سے قبل مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے ایک اونٹ خریدا، پھر جب آپ مدینہ منورہ کو واپس لوٹے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں مسجد جاؤں اور دو رکعت نماز پڑھوں۔ [البخاری: ۳۰۸۹، مسلم: ۷۱۵]

اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر سے چاشت کے وقت ہی واپس لوٹتے تھے، اور سب سے پہلے مسجد میں جا کر دو رکعتیں پڑھتے تھے، پھر اسی میں بیٹھے رہتے (اور لوگوں کے حالات معلوم کرتے)۔

[البخاری: ۳۰۸۸، مسلم: ۷۱۶]

امام نوویؒ کہتے ہیں:

”ان احادیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ سفر سے لوٹ کر واپس آنے والے شخص کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں دو رکعتیں ادا کرے، اور یہ نماز سفر سے واپسی کی نماز ہے نہ کہ تحیۃ المسجد، اور مذکورہ احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے، اور ان میں یہ بھی ہے کہ چاشت کے وقت اپنے گھر میں پہنچنا مستحب ہے، اور یہ بھی ہے کہ مرتبہ کے لحاظ سے بڑے آدمی کو جسے سفر سے واپسی پر عموماً لوگ سلام کرنے کیلئے آتے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ واپس آ کر اپنے گھر کے قریب کسی ایسی جگہ پر بیٹھے جہاں لوگ بآسانی اس سے ملاقات کر سکیں، چاہے وہ مسجد ہو یا کوئی اور جگہ“۔

[شرح مسلم للنووی: ۵/۲۳۶، فتح الباری: ۱/۵۳۷]

(۳) وضو کے بعد نماز

دن اور رات میں کسی وقت جب کوئی مسلمان وضو کرے تو اس کے بعد نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے نماز فجر کے وقت فرمایا:

(يَا بَلَالُ احْلُثْنِي بِأَرْجَلِي عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ)

ترجمہ: ”اے بلال! مجھے تم اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا وہ عمل بتلاؤ جس پر تمہیں (اللہ تعالیٰ کی رضا یا جنت کے حصول کی) سب سے زیادہ امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے ایسا کوئی عمل کیا تو نہیں، البتہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس پر مجھے بہت زیادہ امید ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دن اور رات کی جس گھڑی میں بھی وضو کرتا ہوں تو اس کے بعد نماز ضرور

پڑھتا ہوں، جتنی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے لکھی ہوتی ہے۔

[البخاری: ۱۱۳۹، مسلم: ۲۳۵۸]

امام نوویؒ کہتے ہیں:

”اس حدیث میں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور یہ نماز سنت ہے، اور یہ نماز کے ممنوعہ اوقات میں (طلوع، زوال اور غروب آفتاب کے وقت، نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد) بھی جائز ہے، کیونکہ یہ سبھی نماز ہے“۔

[شرح مسلم للنووی: ۱۵/۲۳۶، فتح الباری: ۳/۳۵]

اور میں نے امام عبدالعزیز بن بازؒ سے صحیح بخاری کی حدیث مذکور کی شرح کے دوران سنا تھا، انہوں نے کہا:

”یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سنت وضو دن اور رات کے دوران ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے“۔

اور اس عظیم سنت کی مزید تاکید حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے، جس میں یہ ہے کہ انہوں نے مکمل وضو کیا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور آپ نے وضو کے بعد فرمایا تھا: (مَنْ قَوَّضًا نَحْوًا وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّي رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَلَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) ترجمہ: ”جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس نے دو رکعات اس طرح ادا کیں کہ ان میں دنیاوی خیالات پیدا نہیں ہونے دیئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادے گا“۔ [البخاری: ۱۶۴، مسلم: ۲۳۶]

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ،
مُقْبِلَ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ)

ترجمہ: ”جو مسلمان اچھی طرح وضو کرے، پھر کھڑا ہو جائے اور مکمل توجہ کے ساتھ دو رکعتیں نماز پڑھے، تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے“ [مسلم: ۲۳۳]

اور سنت وضو کو ہر وقت ادا کرنے کی مزید تاکید حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے صبح کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا: (يَا بَلَاءُ! بِمَا سَبَقْتَنِي إِلَى الْجَنَّةِ؟ مَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَطُّ إِلَّا سَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أُمَامِي، دَخَلْتُ الْبَارِحَةَ الْجَنَّةَ لَسَمِعْتُ خَشْخَشَتَكَ أُمَامِي....)

یعنی ”اے بلال! تم کس عمل کے ساتھ جنت میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی، اور آج رات بھی اسی طرح ہوا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔“

انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے جب بھی اذان کہی، اس کے بعد دو رکعات ضرور ادا کیں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے دوبارہ وضو کر لیا، اور میں نے یہ ذہن بتا لیا کہ (وضو کے بعد) دو رکعتیں پڑھنا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے (جو کہ مجھے ہر حال میں ادا کرتا ہے)۔

تب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تو انہی دو رکعتوں کے ساتھ ہی تم مجھ سے سبقت لے گئے“۔ [احمد: ۳۶۰/۵، الترمذی: ۳۶۸۹۔ صحیحہ لابانی]

حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں: ”یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جب بھی وضو لوثا، وہ ہر مرتبہ فوراً وضو کر لیتے، اور وضو کے بعد نماز پڑھتے۔“

[فتح الباری: ۳/۳۵]

اور یہی شیخ الاسلام کا مذہب ہے کہ سنت وضو ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے، اگرچہ ممنوعہ اوقات میں سے کوئی وقت کیوں نہ ہو۔ [الاختیارات الفقہیۃ لابن تیمیہ: ۱۰۱]

(۴) نمازِ استخارہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ تمام امور میں استخارے کی تعلیم اتنے اہتمام کے ساتھ دیتے تھے جیسا کہ ہمیں قرآن مجید کی ایک سورت کی تعلیم دے رہے ہوں، آپ فرماتے تھے:

ترجمہ: ”تم میں سے کسی شخص کو جب کسی معاملے میں پریشانی ہو تو وہ دو رکعتیں نماز نفل پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے:

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ،
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَلَا تُدْرِهِ
لِي وَيَسْرِهِ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي
وَعَاقِبَةِ أُمْرِي (أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ) فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي
عَنْهُ وَالْقُرْآنُ لِيَ الْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضَيْتُ بِهِ)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ خیر کا طلبگار ہوں، اور تیری

قدرت کے ساتھ قدرت طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیرے عظیم فضل کا سائل ہوں، کیونکہ تو ہی قدرت رکھتا ہے، میں تو قدرت نہیں رکھتا، اور تو ہی جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا، اور غیبوں کا جاننے والا بھی تو ہے، اے اللہ! اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ (جس کام کیلئے استخارہ کر رہا ہوں اس کا ذکر کرے) میرے لئے میرے دین، میری معیشت اور میرے انجامِ کار میں بہتر ہے تو اس کو میرے مقدر میں کر دے اور اسے میرے لئے آسان بنا دے، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ (جس کام کیلئے استخارہ کر رہا ہوں اس کا ذکر کرے) میرے لئے میرے دین، میری معیشت اور میرے انجامِ کار میں برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور میرے لئے خیر کو مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے“۔ [البخاری: ۱۱۶۲، ۶۳۸۲، ۷۳۹۰]

ادریخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ اگر کسی امر کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو نمازِ استخارہ منوع وقت میں بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ [الاختیارات الفقہیہ لابن تیمیہ: ۱۰۱، مجموع الفتاوی: ۲۳/۲۱۵، فتح الباری: لابن حجر: ۱۱/۱۸۳]

(۵) صلاۃ التوبہ

صلاۃ التوبہ کا پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ حضرت علیؓ حضرت ابو بکرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَا مِنْ عَبْدٍ يُذِيبُ ذَنْبًا، فَيُحْسِنُ الطَّهْرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ)

ترجمہ: ”جو بندہ کوئی گناہ کرے، پھر اچھی طرح سے وضو کرے، اور پھر کھڑا ہو جائے اور دو رکعتیں پڑھے، اور بعد ازاں وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ

تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

ترجمہ: ”ایسے لوگوں سے جب کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہ معاف کر سکے؟ اور وہ عہد اپنے کئے پر اصرار نہیں کرتے۔“

[ابوداؤد: ۱۵۲۱، الترمذی: ۴۰۶۔ صحیحہ لا لبانی]

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ صلاۃ التوبہ ممنوع وقت میں بھی پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ توبہ فوری طور پر کرنا واجب ہے۔

[فتاویٰ شیخ الاسلام: ۲۱۵/۲۳]

(۶) سجود تلاوت

① سجدہ تلاوت کی فضیلت: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ ، فَسَجَدَ ، اغْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَسْكَى ، يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ [وفی روایہ : يَا وَيْلَى] أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرَ الشَّيْطَانُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَأُتِيَ النَّارَ)

ترجمہ: ”جب کوئی ابن آدم آیت سجدہ کی قراءت کرتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، تو شیطان علیحدہ ہو کر رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے: ہائے اس کی مصیبت! [اور ایک روایت میں ہے: ہائے میری مصیبت!] ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو وہ سجدہ ریز ہو گیا، چنانچہ اس کیلئے جنت ہے، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار

کر دیا، چنانچہ میرے لئے جہنم ہے۔“ [مسلم: ۸۱]

اس حدیث میں تجوید تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔

② سجدہ تلاوت پڑھنے والے اور سننے والے کیلئے صحیح مذہب کے مطابق سنت مؤکدہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، تو آپ نے بھی سجدہ کیا اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی سب کے سب سجدے میں پڑ گئے، سوائے ایک بوڑھے شخص کے جس نے اپنی اٹھیلی میں مٹی اٹھائی اور اسے اپنی پیشانی کے قریب کر کے اسی پر سجدہ کر لیا، اور اس نے کہا: مجھے بس یہی کافی ہے، پھر کچھ عرصہ بعد میں نے اس بوڑھے کو دیکھا کہ اسے کفر کی حالت میں قتل کر دیا گیا، اور وہ امیہ بن خلف تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں آیت سجدہ تھی، وہ سورۃ النجم ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے بھی سجدہ کیا اور جو لوگ آپ کے پیچھے تھے وہ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ [البخاری: ۱۰۶۷، ۱۰۷۰، ۳۸۵۳، ۳۹۷۲، ۴۸۶۳، مسلم: ۵۷۶]

اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سورۃ النجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں، جنوں اور (کچھ دیگر) انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ [البخاری: ۱۰۷۱، ۴۸۶۲]

اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہم پر وہ سورت تلاوت فرماتے تھے جس میں سجدہ ہوتا، تو آپ خود بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، اور ہمارا اس طرح ازدحام ہوتا کہ ہم میں سے کئی لوگوں کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جہاں وہ سجدہ کر سکتے۔

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ قرآن پڑھتے تھے، اور جب کوئی ایسی سورت پڑھتے کہ جس میں سجدہ ہوتا، تو آپ ﷺ خود بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتے.... [البخاری: ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، مسلم: ۵۷۵]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ سورۃ الانشقاق اور سورۃ العلق میں سجدہ تلاوت کیا۔ [مسلم: ۵۷۸]

اور یہ تمام احادیث سجود تلاوت کی اہمیت و مشروعیت اور نبی کریم ﷺ کے اہتمام پر دلالت کرتی ہیں، تاہم کچھ ایسے دلائل بھی موجود ہیں جن سے ان کا واجب نہ ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق ثابت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے روز منبر پر سورۃ النحل کی تلاوت کی، یہاں تک کہ جب آیت سجدہ آئی تو آپ منبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور اسی طرح لوگ بھی سجدے میں پڑ گئے، پھر جب اگلا جمعہ آیا تو انہوں نے پھر وہی سورت پڑھی، اور جب آیت سجدہ کی قراءت کی تو آپ نے فرمایا: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نُمِرُ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)

ترجمہ: ”اے لوگو! ہم آیات سجود سے گذرتے ہیں، لہذا جس نے سجدہ کر لیا اس نے ٹھیک کیا، اور جس نے سجدہ نہ کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے سجدہ نہ کیا، اور ایک روایت میں ہے:

(إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہاں اگر ہم اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں۔“ [البخاری: ۱۰۷۷]

اور سجودِ تلاوت کے سنتِ مؤکدہ ہونے اور واجب نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ پر سورۃ النجم کو پڑھا، تو انہوں نے اس میں سجدہ نہ کیا۔

[البخاری: ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، مسلم: ۵۷۷]

اور امام نوویؒ، حافظ ابن حجرؒ اور ابن قدامہؒ نے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ حدیثِ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سجدہ تلاوت نہ کرنے کے جواز کی دلیل ہے، اور یہ کہ سجدہ تلاوت سنتِ مؤکدہ ہے نہ کہ واجب، کیونکہ اگر واجب ہوتا تو آپ ﷺ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اس کا حکم دیتے۔ [شرح مسلم للنووی: ۸۱/۵، المغنی لابن قدامہ: ۳۶۵/۲، فتح الباری لابن حجر: ۵۵۵/۲]

اور حافظ ابن حجرؒ کہتے ہیں: ”سجدہ تلاوت کے واجب نہ ہونے کی سب سے قوی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ [فتح الباری: ۵۵۸/۲]

لیکن امام ابن بازؒ ان کا تعاقب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”اس سے زیادہ قوی، اور سجدہ تلاوت کے واجب نہ ہونے کی سب سے واضح دلیل حضرت زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ پر سورۃ النجم کو پڑھا اور اس میں سجدہ نہ کیا، اور نہ ہی نبی کریم ﷺ نے انہیں اس کا حکم دیا، اور اگر وہ واجب ہوتا تو آپ ﷺ انہیں اس کا حکم ضرور دیتے۔“ [حاشیہ فتح الباری لابن باز: ۵۵۸/۲]

❶ اگر قاری قرآن سجدہ تلاوت کرے تو سننے والا بھی کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو سننے والا بھی نہ کرے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جو کہ سابقہ طور میں گزر چکی ہے۔

اور ایک نوجوان تمیم بن حذلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیتِ سجدہ کی تلاوت کی تو انہوں نے اس سے کہا: تم سجدہ کرو، اور اس میں تم ہمارے امام ہو۔ [البخاری معلقاً: کتاب سجود القرآن باب من سجد لسجد القاریء۔ قال الحافظ: وصلہ سعید بن منصور]

لہذا وہ سننے والا جو قاری قرآن کی تلاوت کو بغور سن رہا ہو، اور وہ اسے سنتے ہوئے اس کی متابعت بھی کر رہا ہو، تو اگر قاری قرآن سجدہ کرے تو وہ بھی کرے، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ بھی نہ کرے۔ [فتح الباری: ۵۵۸/۲، المغنی لابن قدامة: ۳۶۶/۲، الشرح المجمع لابن عثیمین: ۱۳۱/۴]

اور رہا وہ سامع جو سماع قرآن کا قصد نہیں کرتا بلکہ کہیں سے گذرتے ہوئے اس نے قراءت سن لی، اور قاری نے سجدہ کیا، تو سامع پر لازم نہیں کہ وہ بھی سجدہ کرے، جیسا کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے کہ وہ اسے اس پر واجب نہیں سمجھتے تھے۔ [البخاری معلقاً: کتاب سجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود۔ قال الحافظ: وصلہ ابن ابی شیبہ]

اور حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا کچھ لوگوں سے گذر ہوا جو کہ بیٹھے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور جب انہوں نے آیتِ سجدہ کو پڑھا تو سجدے میں پڑ گئے، تب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بھی کہا گیا تو انہوں نے کہا: (مَا لِهَذَا غَلَوْنَا) ”ہم اس کام کیلئے نہیں نکلے تھے“ [البخاری معلقاً: وقال الحافظ: وصلہ عبدالرزاق، وقال: إسناده صحيح]

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے: (إِنَّمَا السُّجْدَةُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَهَا)
”سجدہ تلاوت اس پر ہے جو آیتِ سجدہ کو بغور سنے“۔ [المرجع السابق]

اور قصداً آیت سجدہ کو سننے والے شخص کے متعلق ابن بطلال کا کہنا ہے کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ اگر قاری سجدہ کرے تو قصداً سننے والے پر واجب ہے کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ [فتح الباری: ۲/۵۵۶، نیل الاوطار: ۲/۳۰۹]

اور یاد رہے کہ سامع اور مستمع کے درمیان مذکورہ فرق درج بالا دلائل کی بناء پر کیا گیا ہے۔ [شرح مسلم للنووی: ۵/۷۸]

❶ سجود قرآن کی تعداد اور ان کے مقامات

قرآن مجید میں سجود تلاوت کی تعداد پندرہ ہے اور ان کے مقامات درج ذیل ہیں:

❶ سورۃ الاعراف کے آخر میں ﴿وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ پر۔

❷ سورۃ الرعد میں ﴿وَزَلَّالَتْهُمْ بِالْغُلُوبِ وَالْآصَالِ﴾ پر۔ [الرعد: ۱۵]

❸ سورۃ النحل میں ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ پر۔ [النحل: ۵۰]

❹ سورۃ الاسراء میں ﴿وَيَزِيلُهُمْ خُشُوعًا﴾ پر۔ [الاسراء: ۱۰۹]

❺ سورۃ مریم میں ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا﴾ پر۔ [مریم: ۵۸]

❻ سورۃ الحج میں ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ پر۔ [الحج: ۱۸]

❼ سورۃ الحج میں ﴿وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ پر۔ [الحج: ۷۷]

سورۃ الحج کے دو سجدوں کے بارے میں خالد بن معدانؓ کہتے ہیں کہ (فُضِّلَتْ

سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ)

یعنی ”سورۃ الحج کو دیگر سورتوں پر اس لئے فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدے

ہیں۔“ [بلوغ المرام: ۳۶۶، وعزاه إلى أبي داود في المراسيل۔ اور میں نے امام ابن بازؒ

سے سنا تھا کہ: لا بأس بإسناده۔]

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا:
کیا سورۃ الحج میں دو سجدے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:
(نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهُمَا)

ترجمہ: ”ہاں، اور جو شخص اس میں دو سجدے نہ کرے تو وہ اسے سرے سے پڑھے ہی نہیں۔“ [الترمذی: ۵۷۸؛ وحسنہ لألبانی، ابوداؤد: ۱۴۰۲، وضعہ الحافظ فی بلوغ المرام۔
اور میں نے امام ابن بازؒ سے سنا تھا کہ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ کی مرسل روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لئے یہ حسن درجے کی حدیث ہے]

⑧ سورۃ الفرقان میں ﴿وَرَأَاهُمْ نُفُورًا﴾ پر۔ [الفرقان: ۶۰]

⑨ سورۃ النمل میں ﴿رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ پر۔ [النمل: ۲۶]

⑩ سورۃ المائدہ میں ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَغْبِئُونَ﴾ پر۔ [المائدہ: ۱۵]

⑪ سورۃ ص میں ﴿وَاَخْرَجْنَا مَاءً وَاتَابًا﴾ پر۔ [ص: ۲۴]

یہ سجدہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ
((ص)) کا سجدہ واجبات میں سے نہیں، تاہم میں نے نبی کریم ﷺ کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ [البخاری: ۱۰۶۱، ۳۴۲۲]

⑫ سورۃ فصلت میں جمہور علماء کے نزدیک ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَمُونُ﴾ پر سجدہ ہے۔

[فصلت: ۳۷]۔

اور امام مالکؒ اور کچھ دیگر سلف صالحین رحمہم اللہ کا کہنا ہے کہ سورۃ ((فصلت)) کا

سجدہ ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ پر ہے۔ [فصلت: ۳۸]۔

⑬ سورۃ النجم کے آخر میں ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ پر۔

﴿سُورَةُ الْأَنْشِقَاقِ﴾ مِیں ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ پر۔

[الانشقاق: ۲۱]

﴿سُورَةُ الْأَعْلَقِ﴾ کے آخر میں ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ پر۔

۵ جہری نماز میں سجدہ تلاوت ثابت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز عشاء پڑھائی تو انہوں نے اس میں سورۃ الانشقاق کی قراءت کی، اور سجدہ تلاوت کیا، اور جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے حضرت ابوالقاسم رضی اللہ عنہ کے پیچھے اس میں سجدہ کیا تھا، اس لئے اب میں اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ [بخاری: ۷۶۶، ۷۷۸، مسلم: ۵۷۸]

۶ سجدہ تلاوت کی کیفیت

جو شخص آیت سجدہ کو پڑھے، یا اسے بغور سنے تو اس کیلئے مستحب یہ ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہے، اور سجدے کی حالت میں چلا جائے، اور دعائے سجدہ تلاوت پڑھے، پھر سجدے سے تکبیر کہے بغیر، اور اسی طرح تشہد اور سلام کے بغیر اٹھ جائے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم پر قرآن پڑھتے تھے، اور جب سجدے سے گزرتے تو تکبیر کہتے اور سجدہ ریز ہو جاتے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے۔

[ابوداؤد: ۱۴۱۳۔ ضحہ الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام، ولا البانی فی إرواء الغلیل: ۴۷۲، وأخرجہ الحاکم: ۲۲۲/۱ عن عبید اللہ وصحہ ووافقه الذہبی، اور میں نے امام ابن باز سے بلوغ المرام کی حدیث: ۳۶۹ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی

حدیث کو حاکم کی روایت سے تقویت ملتی ہے، لہذا وہ سجدہ تلاوت کیلئے صرف جائز ہوئے تکبیر کہے، تاہم اگر وہ نماز میں ہو تو سجدے میں جاتے ہوئے اور اسی طرح اگر سے اٹھتے ہوئے بھی تکبیر کہے۔ نیز دیکھئے: نیل الأوطار: ۲/۳۱۱، سبل السلام: ۲/۳۸۶ اور اہل علم کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا سجود تلاوت کیلئے بھی وہی شروط ہیں جو نماز نفل کیلئے ہیں، یعنی نجاست سے پاک ہونا، با وضو ہونا، ستر کو ڈھانپنا اور استقبال قبلہ ...؟ تو امام نوویؒ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ شروط سجود تلاوت کیلئے بھی ہیں، جبکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کے نزدیک یہ شروط سجود تلاوت کیلئے نہیں ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان شروط کا لحاظ کئے بغیر سجدہ تلاوت کر لیا کرتے تھے۔

[البخاری: کتاب سجود القرآن باب سجود المشرکین مع المسلمین]

تاہم ان کا موقف یہ ہے کہ سجدہ تلاوت شروط نماز کے ساتھ کرنا افضل ہے، اور کسی عذر کے بغیر ان شروط میں سے کسی ایک کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔

[شرح صحیح مسلم: ۵/۸۲، فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۳/۱۶۵]

اور اسی طرح ابن القیم الجوزیہؒ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ سجود تلاوت میں نماز کی شروط کا پایا جانا ضروری نہیں۔ [تہذیب السنن: ۱/۵۳]

اور میں نے امام ابن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث: ۳۶۹ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ سجود تلاوت کیلئے طہارت شرط نہیں ہے، کیونکہ طہارت تو قراءت کیلئے شرط نہیں، تو قراءت کی بناء پر کئے جانے والے سجدہ تلاوت کیلئے کیسے شرط ہوگی؟ اور یہ موقف جمہور علماء کے موقف کے خلاف ہے، تاہم ہر مسئلے میں ان کی موافقت لازم نہیں ہے جب تک کہ دلیل موجود نہ ہو۔

اس مسئلے میں مزید وضاحت کیلئے دیکھئے: [المغنی لابن قدامہ: ۲/۳۵۸، نیل لاوطار: ۲/۳۱۳۔ اس میں امام الشوکانی کا کہنا ہے کہ سجدہ تلاوت کیلئے ستر کوڑھا پنا اور استقبال قبلہ کرنا بالاتفاق معتبر ہے۔ فتح الباری: ۲/۵۵۳، بیل السلام: ۲/۳۷۹، الشرح المصحح: ۴/۱۲۶، فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۴۰۶]

اور اگر سجدہ تلاوت نماز میں ہو تو سجدے میں جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نماز کے دوران نیچے جاتے ہوئے اور اوپر اٹھتے ہوئے ہر مرتبہ تکبیر کہتے تھے اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) یعنی ”تم نماز اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو“۔ [بخاری: ۵۹۵]

[اور اسی بات کو امام ابن بازؒ نے بھی ترجیح دی ہے۔ مجموع فتاویٰ ومقالات متنوعہ: ۴۰۶/۱۱، نیز دیکھئے: المختارات الجلیۃ من المسائل الفقہیۃ للسعدی: ۳۹]

اور جب آیت سجدہ سورت کے آخر میں ہو اور وہ نماز میں اسی کو پڑھ رہا ہو تو اسے اختیار ہے، چاہے تو رکوع میں چلا جائے، اور چاہے تو سجدہ تلاوت کر لے، پھر کھڑا ہو کر مزید کچھ قراءت کر لے اور رکوع میں چلا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ کھڑا ہو کر بغیر کچھ پڑھے رکوع میں چلا جائے۔ [المغنی لابن قدامہ: ۲/۳۶۹]

● سجدہ تلاوت کی دعا

سجدہ تلاوت میں بھی وہی دعا پڑھے جو سجدہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کے وقت سجود قرآن میں یہ دعا بار بار پڑھتے تھے:

(مَسْجِدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ [وَصَوَّرَهُ] وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ [فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ])

(احمد : ۶/۲۱۷ ، ابوداؤد : ۱۳۱۴ ، الترمذی : ۵۸۰ ، النسائی : ۱۱۲۹ ، سنن البیہقی : ۲/۳۲۵ ، الحاکم : ۱/۲۲۰ - صحیحہ لابانی)

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے گزشتہ رات ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا میں ایک درخت کی جڑ کی طرف نماز پڑھ رہا ہوں، اور میں نے آیت سجدہ کو پڑھا اور سجدے میں چلا گیا، تب اس درخت نے بھی میرے ساتھ سجدہ کیا، اور میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے:

(اَللّٰهُمَّ اُكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ اُجْرًا ، وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْرًا ، وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْرًا ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے آیت سجدہ کو پڑھا، پھر سجدے میں چلے گئے، اور میں نے سنا کہ آپ وہی دعا پڑھ رہے تھے جو اس شخص نے درخت کی طرف سے سنا لی تھی۔

[الترمذی : ۵۷۹ ، ابن ماجہ : ۱۰۵۳ - حسنہ لابانی]

اور جو تلاوت میں بھی وہی چیز مشروع ہے جو جو نماز میں مشروع ہے۔

[مجموع فتاویٰ و مقالات متنوعہ لابن باز : ۱۱/۴۰۷ ، الشرح لمجمع : ۴/۱۴۴]

اور صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت ممنوع اوقات میں بھی کیا جاسکتا ہے کیونکہ یہ ایک سببی عبادت ہے۔

[شرح مسلم للنووی: ۵/۸۲، نیل الأوطار: ۲/۳۱۳، مجموع فتاویٰ ابن باز: ۱۱/۲۹۱]

(۷) سجدہ شکر

کسی مسلمان کو جب کوئی نعت نصیب ہو، یا اس سے کوئی آفت ٹل جائے حالانکہ اس کا سبب موجود تھا، یا اسے کسی مصیبت سے نجات مل جائے تو اس کیلئے مستحب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ شکر بجالائے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب کوئی خوش کن خبر ملتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا جس سے آپ کو خوشی نصیب ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیلئے سجدے میں چلے جاتے

[احمد: ۵/۴۵، ابوداؤد: ۴/۲۷۷، الترمذی: ۸/۱۵۷، ابن ماجہ: ۱۳۹۴۔ صحیحہ الألبانی]

اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے لمبا سجدہ کیا، پھر اپنا سر اٹھایا، اور فرمایا:

(إِنْ جِبْرِيلُ عَلَيَّ أَتَانِي فَبَشِّرْنِي فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُكْرًا)

ترجمہ: ”بے شک حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جس شخص نے آپ پر درود پڑھا، میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جس شخص نے آپ پر سلام کہا میں اس پر سلام کہوں گا، چنانچہ میں نے شکر بجالانے کی خاطر اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ کیا“۔ [احمد: ۱/۱۹۱، وحسنہ الألبانی فی تحقیق المشکاۃ: ۹۳۷]

اور حضرت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا..... تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اہل یمن کے اسلام کے متعلق نبی کریم ﷺ کو ایک خط لکھا، اور جب آپ ﷺ نے وہ خط پڑھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کیلئے سجدے میں گر گئے۔

[السنن الکبریٰ للبیہقی: ۳۶۹/۲۔ صحیح البیہقی۔ وأصله فی صحیح البخاری]

اور جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک خوشخبری دینے والے کی آوازیں کر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، تو وہ بھی سجدے میں گر گئے۔

[البخاری: ۴۴۱۸، مسلم: ۲۷۶۹]

اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت سجدہ شکر کیا جب انہوں نے خوارزم کے مقتولین میں اس شخص کو دیکھا جس کے قتل کی پیشین گوئی رسول اللہ ﷺ نے کی تھی [احمد: ۱۰۷/۱، وحسنہ لألبانی فی الإرواء: ۴۷۶]

اور صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ شکر، سجدہ تلاوت کی طرح ہے، لہذا اس کیلئے بھی وہ شروء نہیں ہیں جو نماز کی ہیں، اور احادیث سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ سجدہ شکر کیلئے تکبیر کہو جائے گی۔ [اور میں نے امام ابن بازؒ سے بلوغ المرام کی حدیث: ۳۷۲ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ سجدہ شکر تکبیر کہے بغیر ہوگا۔ نیز دیکھئے: نیل الأوطار: ۳۱۵/۲، سبل السلام: ۳۸۹/۲، المغنی لابن قدامہ: ۳۷۲/۲]

نمازِ نفل کے ممنوعہ اوقات

❶ ممنوعہ اوقات

عمومی نفل نماز کے ممنوعہ اوقات بالتفصیل پانچ اور بالا اختصار تین ہیں:

❶ نمازِ فجر کے بعد سے طلوعِ آفتاب تک

❷ طلوعِ آفتاب سے اس کے ایک نیزے کے برابر بلند ہونے تک

❸ عینِ زوالِ شمس کے وقت

❹ نمازِ عصر کے بعد سے غروبِ آفتاب تک

❺ عینِ غروبِ آفتاب کے وقت

اور اگر ان اوقات کو مختصر کیا جائے تو یہ تین بنتے ہیں:

❶ نمازِ فجر کے بعد سے سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے تک

❷ جب سورج عینِ آسمان کے وسط تک پہنچ جائے یہاں تک کہ اس کا زوال ہو

جائے۔

❸ اور نمازِ عصر کے بعد سے سورج کے مکمل غروب ہونے تک۔

اور ان اوقاتِ ممنوعہ کے متعدد دلائل موجود ہیں، چنانچہ حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ

حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ)

ترجمہ: ”فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کے

بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے“

اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے:

(... لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ : بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ،

وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)

ترجمہ: ”دو نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب

ہو جائے، اور فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے“.

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے:

(... لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ

صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ)

ترجمہ: ”نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز

فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے“.

[البخاری: ۵۸۶، ۱۸۶۳، مسلم: ۸۲۷]

اور حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی اس بات کی دلیل ہے، وہ بیان کرتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(... صَلَّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حَتَّى تَرْتَفِعَ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ،

ثُمَّ صَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ ، حَتَّى يَسْتَقِيلَ الظِّلُّ بِالرُّمَحِ ، ثُمَّ

أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ حِينَئِذٍ تُسَجَّرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلَّ فَإِنَّ

الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ

حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ
لَهَا الْكَافِرُ] [مسلم: ۸۳۲]

ترجمہ: ”تم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا بند کر دو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی وقت کفار اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پھر نماز پڑھو کیونکہ اس وقت نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب (سورج آسمان کے عین وسط تک پہنچ جائے اور) تیر کا سایہ بالکل سیدھا کھڑا ہو (نہ دائیں ہو اور نہ بائیں)، تو اس وقت نماز نہ پڑھو کیونکہ عین اسی وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، پھر جب سایہ آجائے تو نماز پڑھو کیونکہ اس وقت نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ تم عصر کی نماز پڑھ لو، پھر نماز پڑھنا بند کر دو یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور اسی وقت کفار اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔“

اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تین گھڑیاں ایسی ہیں جن میں رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھنے اور فوت شدگان کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ بلند ہو جائے، اور جب دوپہر کے وقت (مشرق و مغرب کی طرف) کسی چیز کا سایہ نہ رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو یہاں تک کہ مکمل طور پر غروب ہو جائے [مسلم: ۸۳۱]

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَتَخَرُّوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَتَخَرُّوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ)

ترجمہ: ”جب سورج تھوڑا سا ظاہر ہو جائے تو نماز مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح واضح ہو جائے، اور جب تھوڑا سا چھپ جائے تو نماز مؤخر کر دو یہاں تک کہ وہ اچھی طرح غائب ہو جائے“۔ [البخاری: ۳۲۷۲، مسلم: ۸۲۹]

یہ تمام احادیث مذکورہ اوقات میں نمازِ نفل کے ممنوع ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کئی احادیث صحیحین وغیرہ میں موجود ہیں، اور میں نے امام ابن بازؒ سے صحیح مسلم کی حدیث: ۸۲۷ کی شرح کے دوران سنا تھا کہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز کے ممنوع ہونے کے بارے میں وارد احادیث متواتر کے درجہ تک پہنچتی ہیں، اور ممنوعہ اوقات پانچ ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ سبھی نمازیں مثلاً طواف کے بعد دو رکعتیں، تحیۃ المسجد، نماز کسوف اور نماز جنازہ وقتِ طلوع اور وقتِ غروب کے علاوہ باقی ممنوع اوقات میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

یاد رہے کہ ان پانچ اوقات کے علاوہ فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی سنتوں کے سوا کوئی اور نفل نماز پڑھنا بھی ممنوع ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا مَسْجِدَيْنِ)

یعنی ”فجر کے (طلوع ہونے کے) بعد سوائے دو رکعتوں کے اور کوئی نماز نہیں“۔

[احمد: ۱۰۴/۲، الترمذی: ۴۱۹، ابوداؤد: ۱۲۷۸، ابن ماجہ: ۲۳۵۔ صحیحہ لا لبانی]

اور اس کی مزید وضاحت ابوداؤد کی روایت سے ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ ییار مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے طلوع فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: اے ییار! ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں

یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا:

(يُبَلِّغُ شَاهِدُكُمْ غَايِبَكُمْ ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ)

ترجمہ: ”تم میں جو موجود ہے وہ غیر موجود کو پہنچا دے کہ تم فجر کے (طلوع ہونے کے) بعد دو رکعتوں کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو“۔ [ابوداؤد: ۱۲۷۸۔ صحیحہ لالہ بانی]

۲۔ ممنوعہ اوقات میں سبھی نمازیں

ممنوعہ اوقات میں سبھی نمازوں کے پڑھنے کے جواز یا عدم جواز کے متعلق علماء رحمہم اللہ کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، اور صحیح یہ ہے کہ سبھی نمازیں اس نہی سے مستثنیٰ ہیں، امام نوویؒ احادیثِ نبویؐ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں:

”ان احادیث میں پانچ مذکورہ اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اور امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان میں غیر سبھی نمازوں کا پڑھنا مکروہ ہے، اور ادا کی جانے والی فرضی نمازوں کا پڑھنا جائز ہے، اور جہاں تک سبھی نوافل کا تعلق ہے جیسے تحیۃ المسجد، سجودِ تلاوت، سجودِ شکر، نمازِ عید، نمازِ کسوف، نمازِ جنازہ، اور اسی طرح فوت ہونے والی نمازیں ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ امام شافعیؒ اور ایک گروہ ان نمازوں کو ان اوقات میں بلا کراہت جائز قرار دیتے ہیں، اور امام ابو حنیفہؒ اور کچھ دیگر علماء کے نزدیک یہ نمازیں بھی احادیثِ نبویؐ میں شامل ہیں، اور امام شافعیؒ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کا نمازِ عصر کے بعد سنتِ ظہر کا پڑھنا ثابت ہے، اور یہ قضا ہونے والی سنت کے پڑھنے کی صریح دلیل ہے، تو کوئی اور سبھی نماز جس کا سبب ممنوعہ وقت میں ظاہر ہوا ہے بالاولیٰ پڑھا جاسکتا ہے، اور قضا ہونے والی فرض نماز اور اسی طرح نمازِ جنازہ بھی بالاولیٰ پڑھی جاسکتی ہے“۔

[شرح صحیح مسلم للنووی: ۶/۳۵۸۔ جبکہ حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری: ۲/۵۹ میں بعض سلف سے مطلقاً جواز نقل کیا ہے، اور ان کے نزدیک احادیثِ نبوی منسوخ ہیں، اور بعض اہل علم کے نزدیک ان اوقات میں مطلقاً نماز منع ہے]

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ سبھی نمازوں کو منوعہ اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ یہی علماء کا صحیح ترین قول ہے، اور امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کا بھی یہی مذہب ہے۔

[مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۳/۲۱۰]

اور جن علماء نے یہ کہا ہے کہ احادیثِ نبوی غیر سبھی نمازوں پر محمول کی جائیں گی، اور ان سے سبھی نمازیں مستثنیٰ ہوں گی، تا کہ تمام دلائل کے درمیان تطبیق دی جاسکے، تو ان کے اس قول کے بارے میں امام ابن بازؒ کہتے ہیں:

”یہی قول صحیح ترین قول ہے، اور یہ امام شافعیؒ اور ایک روایت کے مطابق امام احمدؒ کا مذہب ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ، اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیمؒ نے اختیار کیا ہے، اور اسی سے تمام احادیث پر عمل ہوتا ہے، واللہ اعلم“۔

[حاشیہ ابن باز علی فتح الباری: ۲/۵۹]

اور سبھی نمازوں کے مستثنیٰ ہونے کی ایک دلیل حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى ، أَيْةَ مَسَاعِدِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)

ترجمہ: ”اے بنی عبد مناف! کسی ایسے شخص کو منع نہ کرنا جس نے دن اور رات کی کسی

گھڑی میں اس گھر کا طواف کیا، اور نماز پڑھی“
 [ابوداؤد: ۱۸۹۴، الترمذی: ۸۶۸، التسانی: ۲۹۲۴، ابن ماجہ: ۱۲۵۴۔ صحیحہ لا لبانی،
 وقال ابن باز: إسناده جيد]

اور حضرت یزید بن الاسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے حج میں
 حاضر ہوا، تو میں نے آپ کے ساتھ مسجد خیف میں نماز فجر ادا کی، جب آپ ﷺ نے
 نماز پڑھ لی، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے آخر میں دو شخص ہیں جنہوں نے
 آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا: (عَلَىٰ بَيْهَمَا) ”انہیں میرے پاس
 لاؤ۔“ چنانچہ ان دونوں کو اس حال میں لایا گیا کہ ان کے کندھوں اور پہلوؤں کے
 درمیان کا گوشت (خوف کے مارے) کانپ رہا تھا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہیں
 ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے منع کیا؟“

انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے اپنے کجاووں میں (جہاں ہم نے پڑاؤ
 ڈالا ہوا ہے وہیں) نماز پڑھ لی تھی، تب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:
 (فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رَحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ
 فَصَلَّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ)

ترجمہ: ”ایسے نہ کیا کرو، اور جب تم اپنے کجاووں میں نماز پڑھ لو، پھر جماعت والی
 مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو، وہ تمہارے لئے نفل نماز ہوگی۔“
 [الترمذی: ۲۱۹، ابوداؤد: ۵۷۵، التسانی: ۸۵۸۔ صحیحہ لا لبانی]

اور ابوداؤد کی ایک روایت میں یوں فرمایا:
 (إِذَا صَلَّيَا أَحَدَكُمَا فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَذْرَكَ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ)

مَعَهُ ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ)

ترجمہ: ”تم میں سے کوئی شخص جب اپنے کجاوے میں نماز پڑھ لے، پھر امام کو اس حالت میں پائے کہ اس نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو، تو وہ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھ لے، اور یہ اس کیلئے نفل نماز ہوگی۔“ [ابوداؤد: ۵۷۵]

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ارشاد فرمایا: (كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفَّيْهَا ، أَوْ يُمَيِّنُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَفَّيْهَا ؟)

ترجمہ: ”اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم پر ایسے امیر مقرر کئے جائیں گے کہ جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کریں گے یا اس کا افضل وقت نکال کر اسے ادا کریں گے؟“ میں نے کہا: آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں (کہ میں اس وقت کیا کروں؟) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ فُيِّهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ [وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أَصَلِّي])

ترجمہ: ”تم بروقت نماز پڑھ لینا، پھر اگر تمہیں ان کے ساتھ بھی نماز مل جائے تو پڑھ لینا، اور وہ تمہارے لئے نفل نماز ہوگی، اور یہ مت کہنا کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں، اس لئے میں نہیں پڑھتا۔“ [مسلم: ۶۳۸]

امام نوویؒ کہتے ہیں:

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ فجر، عصر اور مغرب کی نمازوں کو باقی نمازوں کی طرح دوبارہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے نماز

دوبارہ پڑھنے کا مطلق حکم دیا ہے اور نمازوں میں فرق نہیں کیا، اور یہی صحیح موقف ہے۔
[شرح مسلم للنووی: ۱۵۴/۵]

اور حضرت محجن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کیلئے اذان کہی گئی، رسول اللہ ﷺ اٹھ کر چلے گئے، پھر جب واپس آئے تو دیکھا کہ محجن رحمہ اللہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا: ”تمہیں نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟“

انہوں نے کہا: کیوں نہیں، (میں مسلمان ہی ہوں) لیکن میں نے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لی تھی، تب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ)

ترجمہ: ”خواہ تم نے نماز پڑھ لی ہو، جب آؤ تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرو“
[النسائی: ۸۵۷۔ صحیحہ البانی]

یہ اور ان کی ہم معنی دیگر تمام احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس شخص نے نماز پڑھ لی ہو، پھر اسے اسی نماز کی جماعت مل جائے تو وہ نفل کی نیت کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے، اگرچہ وہ وقتِ کراہت کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت یزید بن لاؤ سود رحمہ اللہ کی حدیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ وہ نمازِ فجر کا وقت تھا، اور حضرت ابوذر رحمہ اللہ اور حضرت محجن رحمہ اللہ کی روایات میں نماز دوبارہ پڑھنے کا مطلق حکم ہے، اور ان میں نمازوں کے درمیان تفریق نہیں کی گئی، لہذا یہ احادیث ان احادیث کے عموم کی تخصیص کر رہی ہیں جن میں ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ [نیل الاوطار: ۲/۲۹۸]

اور رہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز عصر کے بعد میرے گھر میں آئے، اور آپ نے دو رکعتیں پڑھیں، تو میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! آپ نے آج وہ نماز پڑھی ہے جو آپ پہلے نہیں پڑھتے تھے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا:

”میرے پاس کچھ مال آیا تھا اور میں اتنا مشغول ہوا کہ جو دو رکعتیں میں نمازِ ظہر کے بعد پڑھتا تھا وہ نہ پڑھ سکا، اس لئے میں نے وہ دو رکعتیں اب پڑھی ہیں۔“ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر ہم سے وہ دو رکعتیں فوت ہو جائیں تو کیا ہم بھی قضا کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا: نہیں۔ [احمد: ۶/۳۱۵۔ وسندہ جید کما قال الإمام ابن باز رحمہ اللہ أثناء تقریرہ علی الحدیث: ۸۸ امن بلوغ المرام]

تو یہ نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے، امام الصنعانیؒ کہتے ہیں:

”اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت نماز قضا کرنا نبی کریم ﷺ کی خصوصیات میں سے ہے۔“ [سبل السلام: ۵۲/۲۔ نیل الأوطار: ۲/۲۶۲]

اسی طرح امام ابن بازؒ نے بھی بلوغ المرام کی حدیث: ۸۸ کی شرح کے دوران اسے نبی کریم ﷺ کی ایک خصوصیت قرار دیا۔

اور ممنوعہ اوقات میں فرائض کو قضا کرنا بھی جائز ہے، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ)

ترجمہ: ”جو آدمی کسی نماز کو بھول جائے تو وہ اسے اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، اس کیلئے اس کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں۔“

اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا:

(مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا)

ترجمہ: ”جو شخص کسی نماز کو بھول جائے یا اس سے سویا رہ جائے، تو اس کا کفارہ یہ ہے

کہ وہ اسے اس وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے“۔ [بخاری: ۵۹۷، مسلم: ۶۸۴]

ہم نے اس مسئلے میں اب تک جتنی احادیث ذکر کی ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سبھی نمازیں اوقاتِ ممنوعہ میں پڑھی جاسکتی ہیں، مثلاً فوت ہونے والی فرض نماز، جماعت کا ثواب پانے کیلئے دوبارہ پڑھی جانے والی نماز، تحیۃ المسجد، سجدۃ تلاوت، سجدۃ شکر، نمازِ کسوف، طواف کے بعد دو رکعتیں، عصر اور فجر کے بعد نمازِ جنازہ، جمعہ کے روز عینِ دوپہر کے وقت امام کے منبر پر جانے تک مسجد میں نماز، سنتِ وضو، نمازِ استحارہ، (اگر کسی فوری معاملہ میں استحارہ کرنا ہو اور اسے مؤخر کرنے کی صورت میں اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو)، صلاۃ التوبہ، سنتِ فجر کو نمازِ فجر کے بعد پڑھنا.... یہ سب سبھی نمازیں ہیں جنہیں اوقاتِ کراہت میں پڑھنا جائز ہے۔

[مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۳/۲۵۹، ۲۳/۱۷۸، مجموع فتاویٰ ومقالات

متنوعہ لابن باز: ۱۱/۲۸۶، ۳۸۴]

لیکن تین تنگ اوقات میں نمازِ جنازہ پڑھنا اور فوت شدگان کو دفن کرنا ممنوع ہے، اور وہ ہیں: عینِ غروبِ آفتاب، اور عینِ طلوعِ آفتاب اور عینِ زوالِ آفتاب کے وقت، جیسا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا:

(أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَىٰ هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ) ”کیا کوئی آدمی ہے جو اس پر

صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے!“

[احمد: ۳/۴۵، ۵/۴۵، ابوداؤد: ۵۷۴، الترمذی: ۲۲۰، الحاکم: ۱/۲۰۹، ابن حبان

: ۲۳۹۷، ابویعلیٰ: ۱۰۵۷۔ صحیحہ لابانی فی الإرواء: ۵۳۵]

اور ابن تیمیہؒ نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جو کسی سبب کی بناء پر نماز دوبارہ پڑھنے کے جواز پر دلالت کرتی ہیں، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے صدقہ کرتے ہوئے اکیلے نماز پڑھنے والے شخص کے ساتھ نماز دوبارہ پڑھی تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے، اور امام شافعیؒ، امام احمدؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک ممنوع اوقات میں نماز دوبارہ پڑھی جاسکتی ہے، جبکہ امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک نہیں پڑھی جاسکتی۔ [مجموع فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ۲۳/۲۳۱، ۲۳/۲۵۹۔ نیز نیل الاوطار: ۲/۳۸۰، المغنی لابن قدامة: ۲/۵۱۵، المختارات الجلیہ فی المسائل الفقہیہ للسعدی: ۵۰، الشرح للمصحح لابن تیمیہ: ۴/۱۷۵]

اور وہ امور جن میں نوافل، فرائض سے جداگانہ حیثیت رکھتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہؒ کی کتاب الشرح للمصحح: ۴/۱۸۴-۱۸۷ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

فہرست مضامین

۳	مقدمہ
۵	① نفل کا مفہوم
۵	② نفل کے فضائل
۱۱	③ بیٹھ کر نفل پڑھنے کا جواز
۱۴	④ سواری پر نفل پڑھنے کا جواز
۱۷	⑤ نفل نماز کے پڑھنے کی سب سے بہتر جگہ گھر ہے
۱۷	⑥ سب سے افضل نفل وہ ہے جسے ہمیشہ جاری رکھا جائے
۲۱	⑦ نفل نماز کبھی کبھی باجماعت پڑھنا جائز ہے
۲۵	⑧ نماز نفل کی اقسام:
۲۵	پہلی قسم: دائمی سنتیں
۲۵	(۱) فرائض کی مؤکدہ وغیرہ مؤکدہ سنتیں:
۲۵	① فرائض کی مؤکدہ سنتیں
۲۸	② سنن مؤکدہ وغیرہ مؤکدہ کی تفصیل
۴۰	③ مؤکدہ وغیرہ مؤکدہ سنتوں کا وقت
۴۰	④ سنتوں کی قضاء
۴۲	⑤ سنتوں اور فرضوں کے درمیان فاصلہ
۴۴	⑥ فرض نماز کی اقامت کے بعد سنتیں پڑھنے کا حکم

- ④ سفر میں سنتیں پڑھنے کا حکم ----- ۴۸
- (۲) نماز وتر: ----- ۵۰
- ① نماز وتر کا حکم ----- ۵۰
- ② وتر کی فضیلت ----- ۵۳
- ③ نماز وتر کا وقت ----- ۵۵
- ④ وتر کی اقسام ----- ۶۲
- ⑤ وتر میں قراءت ----- ۶۹
- ⑥ وتر میں قنوت ----- ۷۱
- ④ قنوت وتر کب پڑھی جائے؟ ----- ۷۲
- ⑧ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا اور مقتدیوں کا آمین کہنا ----- ۷۵
- ⑨ وتر رات کی آخری نماز ----- ۷۶
- ⑩ نماز وتر کے سلام کے بعد دعا ----- ۷۷
- ⑪ ایک رات میں دو وتر نہیں ----- ۷۷
- ④ گھر والوں کو وتر کیلئے بیدار کرنا ----- ۷۸
- ③ وتر کی قضاء ----- ۷۹
- ③ قنوت نازلہ ----- ۸۰
- (۳) نماز چاشت: ----- ۸۷
- ① نماز چاشت کا حکم ----- ۸۷
- ② نماز چاشت کی فضیلت ----- ۹۰

- ۹۳ نماز چاشت کا وقت
- ۹۳ نماز چاشت کی رکعات کی تعداد
- ۹۵ دوسری قسم: وہ نفل نماز جس کیلئے جماعت مشروع ہے۔
- ۹۵ نماز تراویح:
- ۹۵ ① تراویح کا مفہوم:
- ۹۶ ② نماز تراویح کا حکم
- ۹۷ ③ نماز تراویح کی فضیلت
- ۹۷ ④ نماز تراویح کیلئے جماعت کی مشروعیت
- ۱۰۱ ⑤ آخری عشرہ میں قیام اللیل کی اہمیت
- ۱۰۲ ⑥ نماز تراویح کا وقت
- ۱۰۲ ⑦ نماز تراویح کی رکعات
- ۱۰۴ تیسری قسم: عمومی نفل نماز:
- ۱۰۴ ① نماز تہجد:
- ۱۰۴ ② تہجد کا مفہوم
- ۱۰۴ ③ نماز تہجد کا حکم
- ۱۰۶ ④ قیام اللیل کے فضائل
- ۱۱۳ ⑤ قیام اللیل کا سب سے افضل وقت
- ۱۱۶ ⑥ قیام اللیل کی رکعات کی تعداد
- ۱۱۷ ⑦ قیام اللیل کے آداب

- ۱۴۱ ----- ۷ قیام اللیل کیلئے معاون اسباب
- ۱۴۹ ----- ۸ دن اور رات کی عمومی نفل نماز
- ۱۵۱ ----- چوتھی قسم: سبھی نمازیں:
- ۱۵۱ ----- (۱) تحیۃ المسجد
- ۱۵۳ ----- (۲) سفر سے واپسی کی نماز
- ۱۵۴ ----- (۳) وضو کے بعد نماز
- ۱۵۷ ----- (۴) نماز استخارہ
- ۱۵۸ ----- (۵) صلاۃ التوبۃ
- ۱۵۹ ----- (۶) سجود تلاوت
- ۱۷۰ ----- (۷) سجود شکر
- ۱۷۲ ----- نفلی نماز کے ممنوعہ اوقات:
- ۱۷۲ ----- (۱) پانچ ممنوعہ اوقات
- ۱۷۶ ----- (۲) ممنوعہ اوقات میں سبھی نمازوں کا حکم

سُئِلَ عَنْ سَلَاةِ صَلَاةِ الْمُؤْمِنِ ⑦

صَلَاةُ التَّطَوُّعِ

مَفْهُومٌ، وَفَضَائِلُ، وَأَقْسَامٌ، وَأَنْوَاعٌ، وَأَدَابُ
فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

تَأَلَّفَ لِفَقِيرٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
د. سَعِيدِ بْنِ عَمَّالٍ بْنِ وَهْبٍ الْهَمَّطَانِي

(بِاللُّغَةِ الْأُرْدِيَّةِ)

تَرْجَمَهُ: الْحَافِظُ مُحَمَّدُ إِسْحَاقُ زَاهِدٌ

رَاجَعَهُ: د. الْحَافِظُ مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ شَرِيفٌ
الدَّاعِيَةُ بَوَازَرَةُ الشُّؤُونِ الْإِسْلَامِيَّةِ

أَشْرَفَ عَلَى مَرَاجَعَةِ التَّرْجَمَةِ وَتَصْحِيحِهَا الْمُؤَلِّفُ

پاکستان

صَلَاةُ الْتَطَوُّعِ

مَفْهُومٌ، وَفَضَائِلُ، وَأَقْسَامٌ، وَأَنْوَاعٌ، وَآدَابُ
فِي ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

وَسَعِيدُ بْنُ سَعَادٍ ابْنُ وَهْبٍ السَّعْدِيُّ مَاتَ فِي



(باللغة الأردية)

ترجمہ: الحافظ محمد اسحاق زاہد

راجعة: د. الحافظ محمد محمود شريف
الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية

أشرف على مراجعة الترجمة وتصحيحها المؤلف

توزيع

مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان
ص.ب: ١٤٠٥ الريضاض: ١١٤٣١
هاتف: ٤٠٢٢٥٦٤ فاكس: ٤٠٢٣٠٧٦

ردمك: ١-٢٧٦-٤٩-٩٩٦٠